


400 عملیات محبت

(آپ دنیا کو مٹھی میں بند کر سکتے ہیں)

سید تنویر حسین شاہ



نقوش و عملیات برائے حب

ساعتِ مشتری یا ساعتِ زہرہ میں اثار کے قلم سے نقشِ مندرجہ ذیل لکھیں۔ ایک نقش مطلوب کو پاڑ دیں اور ایک نقش طالب کے دامن پر باندھیں۔ ہرے کپڑے میں اس کو پیک کر لیں۔ اگر پلاٹ ممکن نہ ہو تو اس نقش کو ہرے کپڑے میں پیک کر کے کسی درخت پر لٹکادیں۔ درخت یا تو پھل دار ہو رہے ہوں گے جو ابھر ابھر۔

تسخیر محبت

بسانی کشش اور گہری محبت میں برا فرق ہے کشش پاہمی اور وققی رفاقت کو محبت کا نام نہیں دیا جائے۔

سکا اردنہ ہی رومنس کی وحدت آمیز فضائے ایک گہری اور دامنی محبت جنم لے سکتی ہے۔

میرے زندگی محبت دو یادو سے زیادہ افراد کے اندر پیدا ہونے والی ایک ایسی جوشی اور ولو رائی خواہش ہے جو ایسے حالاتِ جنم دینے کا باعث ہوتی ہے جس کے اندر ہر فریق بلا جھگ اپنی اصل شخصیت کا انعام کر سکتا ہے۔ محبت یقیناً خود شناسی، ذات کی دریافت اور سچائی کی دانش درانہ شناخت کا نام ہے۔ جوانان اُنھیں کادرس دیتی ہے۔ نفرت کی دیواروں کو گردیتی ہے۔ زندہ رہنے والی انسنگوں کو جوان رکھتی ہے اور دلوں کے ملاپ کا باعث ہوتی ہے۔

جس طرح محبت کی صلاحیت بھر پورا نہ از اطمینان میں پوشیدہ ہے اسی طرح محبت کا مغلبی ایک کیمیائی جیش کا حامل ہے جس کے تکھار کے لیے شرائطِ عملیات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

سید تنور حسین شاہ نے زیر نظر کتاب میں شرائطِ عملیات کے ساتھ تسخیر محبت کے جو 400 میاں کتاب عملیات قارئین کی نذر کیے ہیں یقیناً طالبِ مطلوب دونوں کے لیے تیر بہدف ثابت ہوں گے بڑھکا۔ فطری تقاضافطرت کے اصولوں کے میں مطابق ہو۔

القيٰت	القيٰت	القيٰت	القيٰت
عليك	عليك	عليك	عليك
محبّة	محبّة	محبّة	محبّة
مني	مني	مني	مني

نقش کی پشت پر یہ آئت لکھیں۔

۱۶

مُحِبُّونَ نَفْعَ الْحَكْمَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَمْنَوْ
أَنْذَلَ حَبَّاً لَّدَهُ

اپنی الگیوں پر سات سات مرتبہ "یا عاظلی یا عاذلی" رقیب یا وکیل "نپنڈ کرم کریں۔ پھر مشتری

باز ہر گئی ساعت میں پان پر لکھ کر مطلوب کو مندرجہ ذیل نقش کھلاؤ۔ انشاء اللہ مطلوب بے بھن و بے قارہ ہو

۳

خالد چودھری

جائے گا۔ نقش کے پاروں طرف میکین کے نام تجویر کر دیں۔

۲ مندرجہ ذیل نقش طالب اپنے بازو پر باندھے۔ ہر سے کچھ سے میں پیک کر کے اٹھا، اللہ مظلوب

بے چین و بے قرار ہو کر رابطہ کرے گا۔

۷۸۶

۳۷۳	۳۷۶	۳۷۹	۳۹۵
۳۷۸	۰۳۴۶	۳۷۲	۳۷۷
۳۹۷	۳۸۱	۳۷۳	۳۷۱
۳۸۵	۳۷۰	۳۹۸	۳۸۰

اتھ یہ ۔

ریاضیکی عین	۷۸۶	۷۸۷	۷۸۸
۳۱۰	۳۱۳	۳۱۶	۳۰۳
۳۱۵	۳۰۳	۳۰۹	۳۱۳
۳۰۵	۳۱۸	۳۱۱	۳۰۸
۳۱۲	۳۰۷	۳۰۶	۳۱۷

بیج کمہ ۱۱۷

۵ اس نقش کو ملکہ زعفران و گاب سے لکھ کر اپنے دائیں بازو پر باندھئے اور ایک نقش مزید بکھر لئو کر مظلوب کو کسی ثابت و فیرہ میں گول کر پڑا دے۔ انشاء اللہ مظلوب بے قرار ہو گا۔

اتھ یہ ۔

۳ روز جمعرات ساعت مشتری یا روز بعید ساعت زهرہ میں ادا رئے قمر سے اور گابہ زعفران سے مندرجہ ذیل عزیت اللہ کر طالب اپنے دائیں بازو پر باندھئے۔ دوران تکالی لوپان کی دھونی لے اور جس لوپان سے دھونی لے اس پر سوتہ "یا وَذُو الْأَطْيَف" پڑھ کر وہ کرے۔ انشاء اللہ چند ہی روز میں مظلوب بے قرار ہو گا۔ اور طالب سے رابطہ قائم کرنے پر مجبور ہو گا۔ عزیت یہ ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

حَسْنِ اللّٰهِ اَنْ يَجْعَلْ بَيْنَكُوْدِ بَيْنِ
الَّذِينَ عَادُ يَتَوَمَّكُوا عَلَى اللّٰهِ قَدْ يَرَا اللّٰهُ
غَفُوسًا حَيْثُعُ۔ اِلَّا بِحُرْمَةِ اِسْقَنْقَشِ فَلَا
ابنِ فَلَا عَلَى حَبِّ فَلَا اِبْنِ فَلَا فَرِيقَتَهُ
شَوَّدَتْ بَحْقَ يَا بَدْرَوْحَ يَا دَوْدَرَ يَا بَابَ الْجَعْلَ الْجَعْلَ
الْجَعْلَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ الْوَعَاءَ الْوَعَاءَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

حَرَّمَتْ عَلَيْكُوْ عَزْنَةَ اللّٰهِ وَقَدْ رَأَتْهُمْ سَجَادَاتِهِ حَقْ مُوسَى كَلِيَّهِ اللّٰهِ وَبِحَقِّ عَبْدِيِّ رُوحِ اللّٰهِ
وَبِحَقِّ اَدَمَ وَحَوَّا وَبِحَقِّ مَشْرَقٍ وَمَغْرِبٍ وَبِحَقِّ لِاَلَّهِ الْاَلَّهِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ سُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
طَلِيَّهُ وَسَلَّعَ وَبِحَقِّ سَبْتُوْجَ قَدْلُوْسَ وَبِحَقِّ جَبَرِلِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَبِحَقِّ اَسْرَافِيلَ وَعَزَّزَ اِبْرَاهِیْمَ وَبِحَقِّ
لَهُ وَهَدِیَّهُ وَبِحَقِّ عَبْتُ الْمَقْدَسَ وَبِحَقِّ صَفَا وَمَرْوَهَ وَبِحَقِّ شَعْبَیْثَ وَهَادِرَ وَمَهْرَسَلَمَانَ وَمَهْرَبَرِیْ
بِحَقِّ مَكْرِيَّا وَبِحَقِّ جَمِيعِ الْاَنْبِيَا وَعَلَى سَتَانِهِمُ الْمُسَلَّمُ وَبِحَقِّ تُورَیْتَ وَانْجِيلَ وَبِحَقِّ نُورِدِرِیْلَ
مَطْبِعِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آیَدِیْهِمْ سَلَّدَرَ مِنْ خَلْقِهِمْ سَدَّا فَاغْتَبَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْمَلُوْنَ مَاصَهُ بَلَّهُ
فَهُمُ لَا يَرْجِعُوْنَ

۶ سچن اس عزیت ہر لخظہ فلان ابن فلان کی محبت میری اتنی بڑھاوے کہ فلان ابن فلان کو۔۔۔ بخیج دیجے
باندھے۔۔۔ نقش یہ ۔

دے اور فلان ابن فلان کو قرار نہ آئے۔ ہر وقت ہر لخظہ فلان ابن فلان، فلان کی محبت اور آرزو میں بے
قدار ہے۔ (یہ تعمیذ بامدھ کر بیت انکاء میں نہیں جانا چاہیے)

٢٩٣	٢٩٤	٢٩٥	٢٩٦
٢٩٧	٢٩٨	٢٩٩	٢٩٠
٢٩٨	٢٩٩	٢٩١	٢٩٢
٢٩٩	٢٩٠	٢٩٣	٢٩٤

٢٩٦
٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٢٩٠
٢٩١
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤


٢٩٦
٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٢٩٠
٢٩١
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤

٢٩٦
٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٢٩٠
٢٩١
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤

٢٩٦
٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٢٩٠
٢٩١
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤

مُطْلَعٌ مُطْلَعٌ مُطْلَعٌ

مُطْلَعٌ مُطْلَعٌ مُطْلَعٌ
مُطْلَعٌ مُطْلَعٌ مُطْلَعٌ
مُطْلَعٌ مُطْلَعٌ مُطْلَعٌ



١٠ مل حسب قلب فلان اس فلان
مل حسب فلان

٢٩٣	٢٩٤	٢٩٥	٢٩٦
٢٩٣	٢٩٤	٢٩٥	٢٩٦
٢٩٣	٢٩٤	٢٩٥	٢٩٦
٢٩٣	٢٩٤	٢٩٥	٢٩٦

١١ صدري مل حسب الوجه المُنْعَلِّف
١٢ صدري مل حسب الوجه المُنْعَلِّف

ل ل ل ل ل
خ خ خ خ خ
ع ع ع ع ع

۱۲

مندرجہ ذیل تینوں نقش مشق و محبت کے لیے اسیں ہیں۔

۷	۱
۲	۸
۶	۳
۶	۵

حب فلاں ابن فلاں علی حب فلاں
ابن فلاں ابن فلاں علی حب فلاں
ابن فلاں

۲۳	۱۷
۱۸	۲۱
۲۲	۱۹
۲۰	۲۲

۱۲	۱۱	۱۵	۹
۱۲	۱۷	۱۸	۱۲

حب فلاں ابن فلاں علی حب فلاں
ابن فلاں ابن فلاں علی حب فلاں
ابن فلاں

مندرجہ ذیل نقش کو تابنے کی تختی پر لکھ کر اسے آگ کی آنچ دیں۔ انشاء اللہ مطلوب جہاں بھی ہو
گا بتاب اب قرار ہو گا۔ نقش یہ ہے۔


۱۴

و و و و و و و و و و و و و و
الحب فلاں ابن فلاں علی حب فلاں ابن فلاں
و و و و و و و و و و و و و و و

مندرجہ ذیل نقش لکھ کر تو دن تک پا کیں۔ انشاء اللہ مطلوب طالبِ محبت میں گرفتار ہو گا۔ نقش

۱۵

ہے۔



العجم قلب فلاں ابن فلاں علی حب فلاں ابن فلاں

مندرجہ ذیل نقش کو کسی ہاتھ کی تختی پر کر کے اس و آگ میں بسیں میں داخل دیں۔ انشاء اللہ
مطلوب بقرار ہو گا۔ نقش یہ ہے۔

۱۶

ع ع ع ع ع د د د د د ز ز ز
ر ر ر د د ل ل ل ل ل ل
الحب فلاں ابن فلاں علی حب فلاں ابن فلاں

۱۷

مندرجہ ذیل حب صد سے زیادہ موثر ہے اور اللہ کے فضل سے ہیئت اثر انداز ہوتا ہے اس نقش کو ۳۰۰ دلیں اور ایک بھنگ میں ایک دن چھوڑ کر مطلوب کوشربت میں محوں کر پا کیں۔ اور کرشمہ قدرت دیکھیں۔
نقش اس طرح بنے گا۔

(۱) مطلوب کی گزرگاہ میں دفن کریں۔
(۲) مطلوب کوشربت میں محوں کر پا کیں۔
(۳) طالب کے سید ہے بازو پر بندھیں۔

جد کامیابی میئے گی۔

برکت سے فلاں این فلاں کو میری محبت میں گرفتار کر دے۔ اگر دوسرے کے لیے یہ عمل کریں تو وہ فلاں جمل طاہب و مطلوب دونوں کا تصور رکھیں۔ اور عمل کے بعد داخل پڑھ کر یہ دعا کریں۔ اے اللہ فلاں این فلاں کو فلاں این فلاں کی محبت میں گرفتار کر دے۔

۲۶ مندرجہ ذیل نقش کو مرغی کے اٹے پر لکھ کر مطلوب کے گھر میں دبادی۔ انشاء اللہ بہت جد مطلوب کے قلب پر اثر ہو گا۔

۷۸۱

یا اللہ	۹۶۸	۹۰۰۱۸	۹۱۱۱۱
یا اللہ	۹۶۸	۹۰۰۱۶	۹۶۸۱۱
یا اللہ	۹۶۸	۹۰۰۱۶	۹۶۸۱۱
یا اللہ	۹۶۸	۹۰۰۱۸	۹۱۱۱۱

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں این فلاں

۲۷ آیت انگریزی مرتباً بعد نماز عشاء و ترویں سے پہلے دوز انو ہو کر پڑھیں۔ اور نماز نجھر کی شخص پڑھ کر آیت انگریزی امرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر دونوں وقتوں میں گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اور اپنے مطلوب کا تصور کر کے فضاؤں میں پھونک ماریں۔ روزانہ ختم عمل پر یہ تصور کریں کہ اپنے مطلوب کے چہرے پر دم کر رہے ہیں۔ انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو کر رہے گا۔ اس عمل کو گاہر پڑھنا ۳۲ دن تک کرتا ہے۔

۲۸ اس طسم کو طشتہ پر لکھ کر مطلوب کو سات حصہ اتوں تک پلا کیں۔ انشاء اللہ اس دوران مطلوب بے چین دبے قرار ہو گا۔

طسم یہ ہے۔

۱۰ کفا کفا صبرا ۲۱) الا الا الا

۶۶

حضرت جبرایل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام

حضرت جبرایل علیہ السلام حضرت عصری فاروق (ع)

الحب فلاں این فلاں علی حب فلاں
ابن فلاں

حضرت عزرا ایل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام

۲۳ مندرجہ ذیل عزیت کسی کو اپنایا جائے کے لیے چینی کی طشتہ پر گاب و زعفران سے لکھ کر مطلوب پا کیں۔ چند دنوں تک گاہر پلا کیں۔ انشاء اللہ مطلوب محبت کرنے پر مجبور ہو گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِأَصْمَدِ بَعْدِ رِبِّيْبَهِ فَلَأَشْيَا كَمِيلَدِ الْحَبْتِ فِلَانِ ابْنِ فِلَانِ مُحَمَّدِ فِلَانِ

۲۲ عروج ماہ میں روز جمعہ بعد نماز نجھر اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف، در میان میں معجمان اذاجہ، ایک سو مرتبہ پڑھیں۔ اور اپنے مطلوب کا خیال رکھیں۔ اور عطر حناء پر دم کر لیں۔ پھر اس عطر حناء کو اپنے دل پر نگاہ کر کے پاس جائیں۔ انشاء اللہ وہ فریفت ہو گا۔

۲۵ ماہ میون میں پہلے اتوار کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ نہر ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر کے تیرنی پر دم کریں۔ اور زیب سورۃ نہر پیچا س مرتباً پڑھیں تو ۲۵ مرتبہ یہ پڑھیں۔

تَهْمَنَ الدَّى بِيَدِهِ مَنْكُوتُ تُقْبَى وَ الَّتِى تَرْجِعُونَ مَا لَاحُولَ وَ لَا فُوْلَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

ایک نئے سک تو پھری بھرات سے شروع کر کے بھر کے دن تک ۲ مرتہ وزار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الْمُخْمَدِينَ وَسَلِّمُوا يَا عَبْدَ رَبِّ الْفَلَقِ
 فَاجْ جِيمِ الْفَلَقِ هَيْنَ بَرَّةٌ فَوَاجِهِ مِيرَ سِيدَ اشْرَافِ جَمِيعِ سِكَلِ قَدَسَ سَرَّهُ بَعْنَ
 كَهْبَعْنَ حَسْتَعَنَ بَعْنَ بِهْبَرْنَهْ كُحَّتَ اللَّهُزَالَّذِنَ اهْمَرَ أَشَدَّهَ طَاتِبَلَّكَلَهُوَالَّهُ
 بَاهْبَعْنَ الْقَلُوبَ وَالْأَبْصَارَ بِلَطْفِي يَا وَدَدَدَيَا وَدَدَدَيَا وَدَدَدَيَا وَدَدَدَيَا
 يَا وَدَدَدَيَا وَدَدَدَيَا وَدَدَدَيَا وَدَدَدَيَا وَدَدَدَيَا وَدَدَدَيَا وَدَدَدَيَا وَدَدَدَ
 يَا بَدُورَجَ
 يَا بَدُورَجَ يَا بَدُورَجَ يَا بَدُورَجَ يَا بَدُورَجَ يَا بَدُورَجَ يَا سَدُورَجَ
 يَا بَدُورَجَ.

۸۶

یا بد د ج

یا قیوڑ

بِسْ	الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	اللَّهُ
بِسْ	الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	اللَّهُ
بِسْ	الرَّحِيمُ	الرَّحْمَنُ	
بِسْ	الرَّحِيمُ	الرَّحْمَنُ	اللَّهُ

یا اللَّهُ یا رَحْمَنُ یا رَحِيمُ یا حَسِی

۸۶

القيمة	القيمة	القيمة	القيمة
علیت	علیت	علیت	علیت
حصیت	حصیت	حصیت	حصیت
محیت	محیت	محیت	محیت

الْيَوْمَ خَغْتُمُ عَلَى أَفْوَاهِهِ وَ تَكَلَّمَتْ أَيْدِيهِ

پڑ کر عطر ملک پر دم کریں۔ اس کے بعد اس عطر کو جک کر مطلوب کے پاس جائے۔ دوران عمل اپنے مطلوب کی خال رکھے۔ انشاء اللہ کا سماں یا ملکی۔

۳۰ اس نقش کو لکھ کر کسی ہر ہر درخت پر لکاویں۔ انشاء اللہ حیرت اک فائدے سامنے آئے گے۔

بِسْ عَلَى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَزَّمْتُ يَا عَمْشَرَ الْأَمْرَ دَأْجَ وَصَاحِبَ الشَّرْ لِلْمُؤْمَنِينَ حُمُودَ الْمُلِيمِينَ حَاتَ مُلْيَمَانَ إِنْ ذَهَبَ طَلَيْهِ التَّلَامَ وَسَخَنَ حَاهِرُوتَ زَعَامَرُوتَ انْ هُوَ إِلَهٌ دُكُمْ لِلْعَالَمِينَ مَفْلَانَ اَنْ مَلَانَ عَلَى حَبْ مَلَانَ اَنْ قَلَانَ.

۳۱ مندرجہ ذیل نقش کو نوچڑی بھرات سے درج ذیل تعداد کے ساتھ لکھیں۔ جملی رات کو عشاء کے


بعد ۵۲ نقش لکھیں۔ دوسرا رات کو ۵۳ نقش لکھیں۔ تیسرا رات کو ۵۴ نقش لکھیں۔ پنجی رات کو ۵۵۔ پانچی رات کو ۵۶ پچھی رات کو ۵۷۔ ساتویں رات کو ۵۸۔ آنھویں رات کو ۵۹۔ نوی رات کو ۶۰ نقش لکھیں۔

ان شاء اللہ اس دوران مطلوب کی طرف سے کوئی پیقام موصول ہو جائے گا۔ اگر خدا انخواست اس دوران مطلوب کا کوئی پیقام موصول نہ ہو۔ تو اسی ترتیب سے ان نقش کو جانا شروع کریں۔ جملی رات ۵۲ جو سب سے پہلے کم تھے انہیں ایک ایک کر کے جلا گئیں۔ دوسرا رات ۵۳ جا گئیں۔ اسی طرح نور اتوں تک جلا گئیں۔ اور نوی رات کو ۶۰ جا گئیں۔ انشاء اللہ ۱۸ ادن کے اندر مطلوب قدموں میں ہو گا۔ نقش یہ ہے۔

مکانیل	امکانیل	حکمت اسلامی					
۲۱ دیوشاں	۲۰ حیائیل	۱۹ کوش	۲۲ مکانیل	۱۸ حیائیل	۲۰ کوش	۱۹ طیائیل	۲۳ تریاٹیل
۲۱ امکانیل	۲۰ امکانیل	۱۹ امکانیل	۲۲ امکانیل	۱۸ امکانیل	۲۰ امکانیل	۱۹ امکانیل	۲۳ امکانیل


۳۲ ہر کوئی شخص کسی ق جائز محبت حاصل کرتا چاہتا ہو تو سات روز تک روزے کے اور دو دو ہو اور پہلے سے افطار کرے۔ افطار کے وقت کوئی نیکین چیز نہ کھائے۔ اور افطار کے بعد سے الہم پر ہنا شروع کرو۔ روزات انی تعداد میں پڑھ کر سات راتوں میں ہوا لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے۔ ساتوے دن مصری کی نیلیں پُل کے بعد دم کر دے۔ اور یہ ڈیاں جن کی تعداد سات ہوئی چاہیے۔ اپنے مطلوب کو کھلائے۔ انشا اللہ فراہم اس پر اثر ہوگا۔ اگر روزات انیک ذلی سات روز تک مخلاتے رہیں تو بہتر ہے۔

۳۳ مندرجہ ذیل نقش کوے روز تک کسی پتھر کے نیچے دلانے کے بعد پھر اپنے سیدھے بازو پر باذیر انشا اللہ مطلوب بے قرار ہوگا۔ نقش یہ ہے۔



الحمد لله رب العالمين

کے دل میں بیدا
ہوگی۔ نقش یہ ہے۔



بِحَقِّ بَيْنِ وَبِحَقِّ نَ وَبِحَقِّ صَ وَبِحَقِّ يَا مَدُوح فِي كَسْكَسَةِ اللَّهِ وَهُوَ
الثَّمِينُ الْغَلِيمُ۔ العَجْلُ السَّاعَةُ الْوَحَا


۳۴ آیت کریم۔ اُنہا علیٰ ذلک لشہید ط و اُنہا لعنتُ الخیر لشہید ط
۱۱ مل مرچ کے داؤں پر پڑھ کر ایک ایک مرتبہ پڑھتے رہیں۔ اور آگ میں ڈالتے رہیں۔ اس میں کسات
روز تک رہیں۔ انشا اللہ مطلوب بے قرار ہو کر رابطہ پیدا کرے گا۔ آیت کریم ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک
مرتبہ یہ کہیں۔ اللہُمَّ قُلْبُ فِلَانِ اِنْ فِلَانَ مُلْ حَتَّیٰ حَتَّیٰ فِلَانَ بَلْ قَارِشُو۔

۳۵ آیت کریم۔ وَالْقَيْتُ عَلَيْنِكَ مُحْكَمَةً مُنْبَأً وَلَتُنْصَعَ عَلَىٰ غَيْبِنِي۔ ۲۱ مرچ
پر پڑھ کر ایک مرتبہ پڑھ کر ایک مرتبہ یہ کہیں۔ اللہُمَّ قُلْبُ فِلَانِ اِنْ فِلَانَ مُلْ حَتَّیٰ حَتَّیٰ فِلَانَ
فلان بے قرار شود۔ پڑھتے رہیں اور آگ میں ڈالتے رہیں۔ انشا اللہ مطلوب بے قرار ہو گا۔

۳۶ اگر میاں یہوی میں اتفاق نہ ہو۔ اور متعلقین ان کی لڑائی جھکڑوں سے پریشان ہوں تو سو دنے سو م
کے تدارکریں۔ ہر ایک دانے میں ایک کانڈا کا گلزار رکھیں۔ جس میں یہ تحریر کریں۔ الحب فلام این فلام علیٰ حب
فلام این فلام۔ کانڈا اگر بڑھ جیچہ ہو تو اچھا ہے۔ اس کے بعد سو م کے ان داؤں کی تسبیح یا لیں۔ اور خادمان کا
کوئی بھی فر دروزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس تسبیح پر سو مرتبہ یہ آیت پڑھے۔ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
وَعَلَىٰ سَفْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَهُ۔ اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس
میں کوئی ۲۱ روز تک جاری رکھیں۔ انشا اللہ روز میں میاں یہوی کا احتساب شتم ہو جائے گا۔

۳۷ نوچندی اتوار کو یہ نقش لکھ کر طالب اپنے سیدھے بازو پر پاخڑے۔ انشا اللہ طالب کی محبت مطلوب

کے دل میں بیدا
ہوگی۔ نقش یہ ہے۔



پڑیتہ صرف میاں بھی کے لیے کار آمد ہے۔ ان ۱۲ طسمات کو رومنی کے قدرے پر کلکھ کر جو طالب ہو وہ اپنے
ہاتھ سے مظلوب کا تصور کر کے کٹتے کو مکھائے۔

۳۰ اگر گورت مرد سے نظرت کرتی ہو تو مرد مندرجہ ذیل کلمات کو لکھ کر اپنے سیدھے ہاتھ پر باندھے گے اور
اگر گورت سے نظرت کرتا ہو تو گورت ان کلمات کو لکھ کر اپنی چھپائیں پاندھے تیر بہد فیصل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا دُوْدُ يَا دُوْدُ يَا دُوْدُ
لَّهُمَّ مَوَدَّتُ رَجُبَتْ
فَلَامَ ابْنَ فَلَامَ عَلَى حُبَّ عَلَامَ ابْنَ عَلَامَ
لَمَّا بَيْنَ ادْرَوْحَوَاءِ لَمَّا بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَسَاهِةِ
وَكَابِينَ يُوسُفَ زَلْعَادَ لَمَّا بَيْنَ مُحَمَّدَ وَعَائِشَةَ
وَمَارِيَةَ وَكَابِينَ عَلَى رَفَاطِنَةَ الرَّزْهَرِ أَوْ بَعْنَيْ
يُعْجَبُونَهُوَ كُحْتُ الْبَدَرِ الدِّينِ أَمْنُرُ أَشَدُ حَمَّافَةً
وَبَعْنَ الرَّحْمَنِ عَلَى النَّسْرِ اِنْ رِبْغَنَتْ رَهْشَتْ حَرْوَبَ
أَنْجَدُوْرِ بَعْنَيْ اِنْ اَسْمَ اَغْطَمَ بَائِيْ بَائِيْ
يَا اَرْحَوَالَرَّاجِبِينَ دَوْصِلَ اللَّهَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَا وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْأَنْصَابِ
أَخْبَعَ.

۳۱ مندرجہ ذیل نقش اگر شوہر تخت ہو تو بھی اپنے بائیس بازو پر باندھے۔ اور اگر بھی تخت ہو تو شوہر
اپنے بازو پر باندھے۔ انشاء اللہ نظرت دور ہو گی۔ نقش یہ ہے۔

۱۳	۲۰	۲۶	فَلَامَ ابْنَ فَلَامَ عَلَى حُبَّ عَلَامَ ابْنَ فَلَامَ
۲۲	۲	۱۲	۲۲
۲	۳۰	۱۶	۱۰
۱۸	۸	۶	۲۸

۳۸ مندرجہ ذیل نقش حب کے معاملے میں تیر بہد فیصل ہے۔ لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس
کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ ۹۰ دن تک یہ عزیمت ۶۰ مرتبہ ہے۔

اجب راجبہ زانیل یا زانڈا زانیل یا زانکفین سامعاً مطیناً الحقیٰ یا بُذْرُجٰ.

اور روزانہ سانچہ نقش لکھے۔ پہلے نقش لکھ لے پھر ایک مرتبہ مذکورہ عزیمت پڑھتا رہے اور ایک نقش پر دم کرن
رہے۔ اس طرح ۶۰ نقشوں پر دم کر دے۔ انہوں دن ان سب نقشوں کو مغل فتح ہو جانے کے بعد جلا دے
انشاء اللہ زکوٰۃ ادا ہو گی۔ آنھر روز تک کسی طرح کا گوشت نہ کھائے۔

زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد مذکورہ عزیمت روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھتا رہے۔ نقش یہ ہے۔

۱۳	۱۶	۱
۱۸		۵
۱۲	۳	۱۳

زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت درمیان کا خانہ خالی رہے گا۔ اور جب کسی کو نقش دینا ہو گا تو اسی درمیان
کے خانہ میں الحب فلاں ابن فلاں علی حب فلاں ابن فلاں لکھا جائے گا۔ یہ نقش سات عدد لکھ کر طالب کو دیے
جائیں۔ وہ روزانہ ایک نقش اپنے ہاتھ سے جلائے گا۔ اور مقصود میں انشاء اللہ کا سیاب ہو گا۔

۳۹ اگر میاں بھی میں ناراضی ہو تو مندرجہ ذیل ۱۳ طسم تیار کریں طریقہ یہ ہے کہ ایک رومنی کے
۱۲ بلکوے کریں۔ اور ہر ایک بلکوے پر ایک طسم لکھیں۔ اور انہیں کسی کتے کو ڈالیں۔ اگر گورت ناراضی ہو تو کسی
کتیا کو، اور اگر مدد ناراضی ہو تو کسی کتے کو رومنی کے یہ سب بلکوے ایک ایک کر کے ایک ہی وقت میں مکھا دیں۔
اس طرح ۳ روز تک کریں۔ انشاء اللہ میاں بھی میں اتفاق پیدا ہو گا۔

طسمات یہ ہیں۔

۳۲

کسی کنوئیں کی منڈیر یا کسی تالاب یا ندی کے کنارے پر جنہے کرتیں مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آیت

بِحَجَّةِ نَهْرٍ كَعْتَ إِلَهُكَ الَّذِي أَمْنَأَ أَشَدَّ حُبَّاً دَلَدَ حَتَّى أَحْتَلَحَ

ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے۔ اور مطلوب کا تصور کر کے اپنے بیٹھنے پر دم کرے۔ گیارہ دن تک یعنی کرنے۔ انشاء اللہ مطلوب کے دل میں آگ مجتہبز کے گی۔

۳۳

مطلوب کے دامیں پاؤں اور اپنے بائیں پاؤں کے نیچے کی مٹی لے کر سات مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اس مٹی پر دم کر کے آگ میں ڈال دے۔ انشاء اللہ مطلوب کے دل میں مجتہبزید ہو گی۔

۳۴

نماز فجر کے بعد گیارہ دن تک سورۃ ہفتہ ۳۷ مرتبہ پڑھ کر مطلوب کے پیکر کا تصور کر کے اسے

سینے پر دم کر دیا کرے۔ اور اس عمل کو گیارہ دن تک جاری رکھے انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو جائے گا۔

۳۵

اپنے نام اپنی والدہ کے نام اور اس کی والدہ کے نام کے احمد اونکا نکال کر ان احمد اکے

برادر۔ ۱۰۰۰۰۰ استغفار علی مساقیہ سادھیت پڑھ کر چیلی کے تبل پر دم کرے اور یہ نئی اپنے سر پر لگا کر مطلوب کے سامنے جائے۔ وہ شیفتہ ہو گا۔

۳۶

مندرجہ ذیل نقش مطلوب کے پہنچنے ہوئے کپڑے پر لکھ کر کورے چاراغ میں حق بنا کر زخون لے کر

میں جلا ایں۔ اور مطلوب کے نام کے اعداد کے مطابق یا وہ دوڑ پڑھیں۔ اول و آخر تو مرتبہ درود شریف پڑھنے۔ اس عمل کو گاہار تین دن تک کریں۔۔۔ انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو گا۔ نقش یہ ہے۔

۳	۶	۳	۶
۳	۷	۳	۷
۸	۶	۳	۶
۵	۱	۹	۵

اکب فلاں ابن فلاں ملی حب فلاں ابن فلاں

۲۷ ایک کورے چاراغ میں درج ذیل عزیت لکھیں۔ اور اس کے درمیان سورۃ اخلاص کا نقش لکھدیں۔ اور اس چاراغ میں زخون کا تبل جلا ایں۔ اس عمل کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس کی حق بنا لیں اور حق روئی میں وہ حق پہنچ کر اس مٹی پر دم کر کے آگ میں ڈال دے۔ انشاء اللہ مطلوب کے دل میں مجتہبزید ہو گی۔ اس کورے چاراغ میں روشن کریں کا جل اتارتے کے لیے اس چاراغ کے اوپر سکل کی کوری پہنچ رکھ لیں۔ جب کا جل اس پہنچ پر جم جائے تو اس کو احتیاط سے کسی ذہبی میں رکھا کریں۔ چاراغ بٹھنے کے دو دن اپنے نام کے احمد اور مطلوب کے نام کے احمد اور پر ابر یا وہ دوڑ پڑھتے رہیں۔ اس عمل کو چھوپھڑی صحرات یا فوجھدی اور کوکریں۔ کا جل احتیاط سے رکھ لیں۔ جب بھی اس کا جل کو اپنی آنکھوں میں لے کر مطلوب کے پاس چاہیں گے۔ انشاء اللہ وہ پوری توجہ دے گا۔ اور ابھر اطاعت بھی کرے گا۔ عزیت یہ ہے۔

اَقْتَدِتْ عَلَيْكُمْ حُرْمَةُ مَدِينَةِ اَنْجَنْ یَا عَطْلَانَیْلُوْنَ زَنْ اَسْرَ اَنْجَنْ وَرَاطَ اَنْجَنْ
یا نَزَقَنْ مَا اَسْلَنْ فلاں ابن فلاں ملی حب فلاں ابن فلاں یہ حق سورۃ اخلاص

سورۃ اخلاص کا نقش یہ ہے۔

۵۰	۵۳	۵۶	۵۳
۵۵	۵۳	۵۹	۵۳
۵۵	۵۸	۵۱	۵۸
۵۲	۵۷	۵۹	۵۷

۵۶ اگر کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہو تو اس عمل کو نئے چاندی پہلی جمعرات سے شروع کریں اور اگلے دن روز تک جاری رکھیں۔ طریقہ عمل یہ ہے کہ ہر روز بعد نماز عشاء، کسی خلوت میں بیٹھ کر سوچنے کیسیں اور اگلے دن صبح نکلنے سے پہلے اپنی آنے میں گلیاں بنانا کر دیتے ہوئے پانی میں بہاؤ دیں۔ ۳۱ ویں دن ایک سویں تک جمعنے سے نقش حسب معمول پانی میں بہاؤ دیں۔ اور آخری نقش اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اپنے گھر میں ذاتی سے اپنے سیدھے بازو پر باندھیں۔ نقش یہ ہے۔

۸۹					
		الله	هو	قل	
		الحمد	لَع	اَللّهُ	اَحَدٌ
			وَلِهِ	لَمْ	يَلِدْ
			يَكْفُوا	لَذْ	يُكْفِرُ
الْحُبُّ فَلَمَّا كَفَرَ الْجِنُونُ عَلَى حَبِّ فَلَامَ اَبْنَيْنَ فَلَامَ					

۵۷ مندرجہ ذیل کو ۳۶۰ مرتبہ روزانہ سات روز تک لگاتار پڑھیں۔ نوچندی جمعرات سے شروع کریں۔ انشاء اللہ سات روز میں مطلوب بے قرار ہو گا۔ اور طالب سے رابطہ قائم کرے گا۔

سُمَاء اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


فَلَمْ هَوَّ اللَّهُ أَحَدٌ بِحَرْمَةٍ جَهْرًا أَتَّلَلَ اللَّهُ الصَّمَدُ بِحَرْمَةٍ اَسْرَادِيلَ لِهِ يَلِدُ بِحَمَّةٍ مَّكَأْلَلَ
دَلَّ بِولَدَ بِحَرْمَةٍ عَزَّرَ اَتَّلَلَ دَلَّ بِكْنَ لَذَّكَفُوا اَحَدٌ بِحَرْمَةٍ دَرْ دَائِلَ مَهْمَأْلَلَ
اَكْبَابَ اَبْنَيْنَ فَلَامَ عَلَى حَبِّ فَلَامَ اَبْنَيْنَ فَلَامَ۔ بِحَمَّةٍ سُورَة١٥٢۔

۵۸ ایک جوڑا جنگلی کبوتروں کا لاکیں۔ پھر چاند کی ۱۲ ویں تاریخ، رات ۱۲ بجے کسی چیل کے درخت کے پاس بیٹھ کر "یا وَذُوذ" سو مرتبہ پڑھیں۔ پھر ۱۲ بجے اس درخت کے توڑیں اور توڑتے وقت "یا وَذُوذ" پا اتھا پڑھتے رہیں۔ جب گھر آجائیں تو ہر ایک پتے پر اکب فلام ابن فلام علی حب فلام ابن لکھ دیں۔ اور ان پتوں کو پھیلا کر کھو دیں۔ اور دونوں کبوتروں کو دفع کر کے ان کا خون ان پتوں پر زال دیں۔ اس اندراز سے ہر ایک پتے پر خون کی کوئی تکوئی چیز نہ آجائے۔ نہ آئے تو خود اپنے باتھ سے لکھ دیں۔ پتے ان پتوں و کسی گئے کوئی تکوئی تکوئی چیز نہ آجائے۔ اور ان کے خلک ہونے اور سوکھ جانے کا انتظار کریں۔ جب تک یہ پتے سوکھنے

۵۹ مندرجہ ذیل نقش ساعت صید میں لکھ کر طالب اپنے بازو پر باندھے۔ انشاء اللہ مطلوب بے پیمن و بے قرار ہو کر ملے گا۔ نقش یہ ہے۔



۵۵ اگر مطلوب کو حاضر کرنا ہو تو مندرجہ ذیل نقش کو رے چراغ پر لکھیں۔ اس وقت لکھیں جب طالب و مطلوب کے ستاروں کے درمیان قرآن ہو۔ اگر دونوں کا ستارہ ایک ہی ہو تو اس ستارے کے شرف یا اونٹ میں نقش لکھیں۔ ایک نقش کو رے منی کے چراغ پر لکھیں اور ایک کاغذ پر لکھیں۔ اس طرح کل ۲۱ چراغوں پر اور ۲۲ کاغذوں پر نقش لکھیں۔ روزانہ ایک چراغ جلا کر اس کا رخ خانہ مطلوب کی طرف رکھیں۔ نوچندی جو سے چراغ جلانا شروع کریں۔ روزانہ چراغ کے قریب تین گلاب کے تازہ پھول بھی رکھیں۔ صبح کو چراغ اور پھول کی ندی یا نہر میں پھینک دیں۔ انشاء اللہ ۲۱ دنوں کے اندر اندر مطلوب تابع ہو کر حاضر ہو گا۔ نقش یہ ہے۔



چائیں۔ روزانہ ان بخوبی پر اپنے اور مطلوب کے نام کے اعداد کے برابر (ہم کے اعداد ا شامل کرنے کی ضرورت نہیں) "بی و دوڑ" پڑھ کر دم کرتے رہیں۔ جب پتے سوکھ جائیں تو ان کو فونے میں جلا دیں۔ اور راکھاں کی محفوظاً کر لیں۔ یہ راکھاں ایک چینی کسی بھی چیز میں ڈال کر مطلوب کو کھلائیں۔ مطلوب دیوانہ ہو کر طالب سے ملتے گا۔ اور ہر حکم کی قابل کرے گا۔

۵۹ پہلی ترکیب۔ جس شخص کو مطلوب کی محبت درکار ہو اس کو چاہیے کہ شروع ماہ میں تو چھوٹی جھرات کو اس عبارت کو ایک سو مرتبہ پڑھئے اور سرمه پرم دم کر کے وہ سرمه کا کر مطلوب کے سامنے جائے۔ انشاء اللہ مطلوب سکر ہو گا۔

دوسری ترکیب۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا مطلب بے قرار ہو کر فوراً میرے پاس بیٹھ جائے تو اس عمل کو ۶۵۰ مرتبہ پڑھ کر مرغی کے انڈے پرم دم کر دے۔ اور اس انڈے پر دس روز تک اسی طرح پڑھ کر دم کرتے رہیں۔ دسویں دن دم کرنے کے بعد کسی جگہ میں کھو کر اس کو فون کر دیں۔ اور اس پر گرم گرم راکھاں کر پھر مٹی ڈال دیں۔ انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو کر ملتے گا۔

تیسرا ترکیب۔ چھ ہزار چھ سو مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پرم دم کر کے مطلوب کو کھلائے۔ انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو گا۔ عمل یہ ہے۔

عَلَيْكَ يَا مُسْكِنُ سَمَوَاتِ الرَّحْمَنِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُسْتَحْيٍ لِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا سَنَّ لَكَ رَحْمَةً فِي زَمَانِكَ وَلَا يَنْهَاكُ عَنْ حُكْمِكَ وَلَا يَنْهَاكُ عَنْ دُلْكَ وَلَا يَنْهَاكُ عَنْ دُلْكَ لِمَنْ يُنْهَاكُ مِنْ دُلْكَ

۶۰ سات سنکریان تک لاہوری کے کر ہر سنکری پر تین سو مرتبہ "یُحَبُّوْنَهُمْ كَمْحُبُّ اللَّهِ طَوَّافُ الْدِينِ امْوَالُهُمْ خَيْرٌ لَهُمْ اَنَّمَّا مُنْهَى الْحَمْرَادِ هُنَّ مُنْهَى الْحَمْرَادِ" کے بعد سنکریوں کو آگ میں ڈال دیجیے۔ سو شترم دیجن فلاں این فلاں اعلیٰ حب فلاں این فلاں۔ اسکے بعد سنکریوں کو آگ میں ڈال دیجیے۔ اور روزانہ عمل کے شروع اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ دو دشیریف پڑھا کر بخوبی پر کھلائیں۔ اور رکھاں کی محفوظاً کر لیں۔ اور ہر حکم کی قابل کرے گا۔

۱۱ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْلَمَ بِمَا يَعْمَلُونَ
وَلَمَّا قَدِمَ نَبِيُّهُ زَادَهُ حُفْرَةٌ فِي حَيْثُمَا

عُشَاءَ کی نماز کے بعد دو رکعت ادا کریں۔ اور سورۃ فاتحہ کے بعد نہ کورہ آیت کو سات مرتبہ پڑھیں۔

نماز سے قارغ ہو کر ستر مرتبہ یہ دعا کریں۔ کہ اے اللہ فلاں این فلاں کو میرے حق میں اس طرح زم کر دے نماز سے ختم تھے داؤ دعیے السلام کے دا سٹے لوٹے کو زم کر دیا تھا۔ اس دعا کے اول دا آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دو دشیریف پڑھیں اور دعا تین مرتبہ کریں۔ انشاء اللہ کامیابی ملتے گی۔

۲۲ عروج ماہ میں صدر و مغرب کے درمیان پانچ سو مرتبہ یہ دو دشیریف پڑھیں۔

الْمَقْدَسِ مِنْ عَنْ شَعْيَ لِمَدْ بَيْنَ دَسْتَبَةِ الْمَسْجِدِ حَمْدُ لِلَّهِ وَلَا يَنْهَاكُ عَنْ دُلْكَ
یہ پڑھنے کے بعد اگر وقت رہے تو وہیں بیٹھنے گے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر چالیس مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔

الْمَهْدِ يَعْلَمُ الْمَأْسَلَ لِيُؤْمِنُ الْأَنْبَيْبُ فِي هَذَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِبُ إِنْعَادَهُ بَعْدَهُ بَيْنَ وَبَيْنَ فَلَانَ اِنْ فَلَانَ۔

۲۳ مندرجہ ذیل نقش محبت میں کامیابی کے لیے اکیرہ ہے۔ یہ طالب کے دامیں بازو پر بند ہے گا۔

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۶	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۳	۱۵

الْمَهْدِ يَاجْرِي اَنْلَلْ بَعْنَ آدَمْ وَخَوْ اَقْلَادَهُ بَنْتَ فَلَانَ رَاجْتَلَاً كَرْوَاعَلِيٌّ حَبْ فَلَانَ اِنْ فَلَانَ بَعْنَ يَاهِدَهُ وَحَيْدَهُ وَنَهَيْدَهُ وَنَهَيْدَهُ

جائز۔

۲۸ میاں بیوی یا ہمی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے یا آپ میں محبت یہ اکٹے کے لیے آہت کو ساتھ جائیں۔
ساتھ ہجڑا کے پیچے گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر کسی پینے کی چیز پر دم کر کے دنوں تک۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . وَمَنْ أَيْمَدَ أَنْ خَلَقَ لَكُوْنَةً أَنْفُسَكَةَ أَنْزَقَاجَالَتْكُنُوا إِلَيْهَا
رَحْمَةً يَنْكُفُعُونَ مَوْعِدَةً كَانَ حَمَدَةً

۲۹ مندرجہ ذیل دونوں نقش ایک کاغذ پر لکھ کر طالب اپنے بازو پر باندھے ایک طرف ایک نقش کے اور
وہری طرف دوسرا نقش لکھے۔
پہلا نقش یہ ہے۔

معنی	س حرف	ح حجیم
کوئی تم	الْحَبْ فَلَامْ اِبْنْ فَلَامْ عَلَى حَبْ فلام اِبْنْ فلام	حَمْمُود
قادِر	حَمْب	محبیب

یا اَنَابَ الْخَرْدَالَوَاسْ بِسْتَهْ وَسُوكْتَهْ دَلْ دَجَانْ دَعْقَلْ دَهْوَشْ
نَهْمْ دَهْمْ دَهْفَتْ اِنْدَاهْ فلام اِبْنْ فلام عَلَى حَبْ فلام اِبْنْ فلام
اِسْرَعْ طَرْفَتَهْ الْعَيْنْ۔ الْوَحَا الْعَجَلْ السَّاعَهْ۔
دوسری نقش جو پشت پر لکھا جائے گا وہ یہ ہے۔

ج	،	،	ب
ب	،	،	ج
،	ج	ب	،
،	ب	ج	،

مدی پتھر کے نیچے دادیں انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہو گا۔ لحد طالب سائنسہ محبت

۹۵۹	۹۶۲	۹۶۵	۹۵۱
۹۶۳	۹۵۲	۹۵۸	۹۶۳
۹۵۳	۹۶۷	۹۶۰	۹۵۷
۹۶۱	۹۵۶	۹۵۳	۹۶۶

بھر متہ ایں نقش فلام اِبْنْ فلام عَلَى حَبْ فلام اِبْنْ فلام بے قرار شود تا و قتیلہ حاضر نہ شود۔

۶۵ مندرجہ ذیل عزیت کو ۲۳ مرتبہ پڑھ کر پان یا الائچی پر دم کر کے مطلوب کو کھلادیں۔ مطلوب فریغہ ہو گا۔
عزیت یہ ہے۔ بیل یا سر سُولْ اَجِیْرَا سَوْلْ بِحَقِّ اَشْرَاهِيَا مَالِكِ بِرْوَ الدَّيْنِ۔ یا اَنْجَمْ بِرْ جَمِیْنِ

۶۶ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور در میان میں دو ہزار مرتبہ "یا بَدْ وَحْ" پڑھ کر کسی مخفی حجج
پر دم کر کے مطلوب کو کھلادیں۔ اور کرشمہ قدرت دیکھیں۔


۶۷ اس نقش کو ایک دن چھوڑ کر مطلوب کو پلا کیں۔ کل گیارہ نقش پلانے چیز۔ روزانہ پلانے سے ہے
نہیں ہو گی۔ ایک دن چھوڑ کر پلا کیں۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۲

۸	۴	۱۰
۹	۷	۶
۳	۱۱	۶

یا بَدْ وَحْ بَدْ وَحْ وَحْ فِي الْبَدْ وَحْ بَدْ وَحْ کَیا بَدْ وَحْ فلام اِبْنْ فلام عَلَى حَبْ فلام اِبْنْ فلام

۷۵ اس نقش کو ای جھر کر رسم کو پڑائیں۔ جو صرات کو ایک تھنڈا ہے۔ لگائیں، سات بصر اتوں تک۔ ایک دن میاں بھی میں زبردست محبت پیدا ہوں گلیں یہ ہے۔



اُب این قلاں علیٰ حب قلاں این قلاں

۷۶ میاں بھی میں محبت کو پیدا کرنے اور محبت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نقش کو کروں میں زال رہات دن تک پائیں۔ ائمۃ اللہ دونوں میں زبردست محبت پیدا ہوگی۔ نقش یہ ہے۔

۷۷ **يَا حَلِيلُرَبِّ الْحَلِيلِ يَا حَلِيلُرَبِّ الْحَلِيلِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

۱۲۳	۱۲۶	۱۲۹	۱۱۶
۱۲۸	۱۱۷	۱۲۲	۱۲۷
۱۱۸	۱۳۱	۱۲۳	۱۲۱
۱۲۵	۱۲۰	۱۱۹	۱۳۰

۷۸ **رَبِّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ يَا مَنَانٌ يَا فَدِي وَالْاحْسَانِ**
المحبت قلاں این قلاں علیٰ حب قلاں این قلاں

۷۹ اس عمل کو تو چندی صرات سے شروع کر کے ۲۱ دن تک جاری رکھئے۔ نمازوں عشاء کے بعد میں خوت میں ۴۰ میں۔ سکن۔ قاف۔ ۷۸۲ مرتب پڑھ کر تین بار یہ کہئے۔ اُب قلاں این قلاں علیٰ حب قلاں این قلاں۔ پڑھتے وقت اپنے محبوب کا غیال رکھئے۔ اول د آخر میارہ گیارہ مرتبہ درود شریف ہے۔ ائمۃ اللہ مقدس میں زبردست کامیابی ملے گی۔

۷۶۹

اُب یہ ہے

۳۷۳	۳۷۶	۳۷۹	۳۷۵
۳۷۸	۳۷۱	۳۷۷	۳۷۷
۳۷۶	۳۷۸	۳۷۳	۳۷۱
۳۷۵	۳۷۰	۳۷۸	۳۷۰

اُب این قلاں علیٰ حب قلاں این قلاں

۷۸۰


کیا ہوگی۔
نقش یہ ہے۔

۷۸۲	۷۸۹	۷۳۲	۷۱۹
۷۳۱	۷۲۰	۷۲۵	۷۳۰
۷۲۱	۷۳۳	۷۲۷	۷۲۳
۷۲۸	۷۲۳	۷۲۲	۷۲۳

اُب این قلاں علیٰ حب قلاں این قلاں

۸۰ مندرجہ ذیل نقش تین بعد کو کر منگل۔ بدھ۔ صرات کو کوہے چڑاغ میں روشن کریں۔ اور چڑاغ کا رخ مطلب کے گھر کی طرف رکھیں۔ ائمۃ اللہ مطلب رختر رہو گی۔

قش یہ ہے۔



لکھ جائے

۸۲

**الْوَرِكِيفُ بِسْمِ خَوَابٍ وَخُورِ فَلَالِ ابْنِ فَلَالِ نَعْلَى رَبِّكَ بِأَصْعَبِ الْفَيْلِ أَمْ يَجْعَلُ
كَيْدَهُ بِسْمِ خَوَابٍ وَخُورِ فَلَالِ دَأْرَسَلَ عَلَيْهِ وَطَبِيرَ الْبَارِيلَ مَأْزِمِيمُ بِجَاهَةِ
بَنِ يَعْيَلِ مَأْقَعَلَهُ كَعْصِبَ مَا كُنْزَلَ بِسْمِ خَوَابٍ وَخُورِ فَلَالِ ابْنِ فَلَالِ عَلَى حَبِّ فَلَالِ ابْنِ فَلَالِ**


۸۳ مرجد ہیں جسے کر بورے پر دم کر کے سات پریاں بنائے اور روزاتہ ایک پریا کسی درخت کی جگہ میں زال
دے جسراں کے دن سے زان شروع کرے۔ انشا اللہ مطلوب حاضر خدمت ہو گا۔

۸۴ جسراں کے دن ساعت مشتری میں یہ تحویہ تین عدد لکھیں۔ پھر تین جسراں کم ایک ایک
کے مشتری کی ساعت میں جلا میں۔ انشا اللہ مطلوب بے قرار ہو گا۔

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُوَ الْعَلِيُّ الْقَطِيلُعَالَفُ بَيْنَ فَلَالِ ابْنِ فَلَالِ عَلَى حَبِّ فَلَالِ ابْنِ
فَلَالِ كَيْفَ بَيْنَ أَمْدَحَ حَوَّا وَمِنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَ وَبَيْنَ هَمَدَ حَمَدَ سَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ
نَخْلِيَّهُ الدَّكَوَيِّ يَاسَتْ حَمَدَ رَبِّ حَمَدَ رَبِّ عَلِيِّهِ الْمَلَائِكَ مَيَّا مَيَّلَ عَلِيِّهِ السَّلَامُ رَأَوْيَنِيَّلَ عَلِيِّهِ السَّلَامُ
وَمَنَدَلِيَّلَ عَلِيِّهِ السَّلَامُ الْأَلَفُ فِي مَلَوِيَّهِمَا أَلَعْجَلُ الْعَجْلُ التَّاسِعُ التَّاسِعُ التَّاسِعُ الرَّغَانُوا لَوْحَدَ**


۸۵ ”یا قادِ فلاں ابک فلاں کو حاضر کر۔“ اس محل کو دریا کے کنارے پر جسے کر طالب خود ۱۱ روز تک
نہ سکے۔ اور ہر روز اپنے ساتھ دو گرام ٹھکرہ سو گرام تھکی لے جائے۔ محل کو تم کرتے وقت ان جنیں وہ کوپانی
نمیں اس سے۔ اور یہ کہہ کر اسے اے خطر طی اسلام آپ کو تدریس دیا جائے اس کو قول فرمائیں۔

۸۶ یعنی تو چندی جسراں کو شروع کرے۔ صیان میں جو جسراں آئے گی اس میں شیر کا کرسی



۸۴

۸۱ اس قش کو جسراں کے دن زوال کے وقت لکھ کر طالب اپنے بازو پر باندھ لے۔ انشا اللہ مطلوب
کے دل میں طالب کی محبت پیدا ہو گی۔ قش یہ ہے۔



۸۴

۸۲ مندرجہ ذیل قش لکھ کر طالب اپنے گئے میں ڈالے۔ اکسر کا دیپر رکھتا ہے۔
قش یہ ہے۔

۵۷۰۵	۵۷۰۹	۵۷۱۲	۵۷۹۸
۵۷۱۱	۵۷۹۹	۵۷۰۳	۵۷۱۰
۵۷۰۰	۵۷۱۳	۵۷۰۷	۵۷۰۳
۵۷۰۸	۵۷۰۲	۵۷۰۱	۵۷۱۳

۸۳ میں بھی میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس قش کو لکھ کر کسی پھل دار درخت پر لٹایا۔

غريب آدمی کو دے۔ انشاء اللہ مطلوب حاضر ہو گا۔

٨٧ سورۃ فاتحہ ۲۱ مرتبہ پڑھ کر آگے پیچھے گیارہ آیا رہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ کسی سرمه پر دم کر کے، سرم کا کر مطلوب سے ملیں۔ انشاء اللہ مطلوب فرینٹ ہو گا۔

٨٨ اگر میاں یوں میں نا اتفاقی ہو تو مندرجہ ذیل آیات لکھ کر وہ فریق ہند ہے جو حق پر ہو۔ یعنی جو چیز ادا ہو یا کم بیزار ہو۔ اگر ہا اتفاقی زیادہ ہو تو ان آیات کو لکھ کر دو توں کو پایا کیں۔ انشاء اللہ نا اتفاقی دور ہو گی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ عَالِمٌ عَنِ الْأَمْرِ وَلَكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ شَفَعَهَا حُجَّةٌ قَاتَلَهُ الْغَيْرُ لِشَدِيدٍ يُجْعَلُنَّ تَهْرُبَهُ حُجَّةً اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَابَ اللَّهِ بِعْنَاهُمْ أَشْرَاهِهِمْ فَلَانِ ابنِ فَلَانِ عَلَى حَبِّ فَلَانِ ابنِ فَلَانِ

٨٩ محبت پیدا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل آیات کو کسی میشی چیز پر ۲۱ مرتبہ پڑھ کر دم کر کے کھلاویں۔ انشاء اللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو گی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَااءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُلَّمَا فِي الْأَزْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ طَلَّا اللَّهُ الْأَلَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْحَبُّ فَلَانِ ابنِ فَلَانِ عَلَى حَبِّ فَلَانِ ابنِ فَلَانِ

٩٠ مندرجہ ذیل منز ۲۱ مرتبہ پڑھ کر محظوظ کو کھلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحيم۔ سَمْغُؤْمَنْ دَفِنَ نُوشْ مُوسَ بَكْنُوْسْ۔ الْخُبُّ فَلَانِ ابنِ فَلَانِ عَلَى حَبِّ فَلَانِ ابنِ فَلَانِ۔

٩١ اگر شوہر یوں سے محبت نہ کرتا ہو تو اس عمل کو لکھ کر یوں اپنے گلے میں ڈال لے۔ انشاء اللہ اس کو لکھ کر سے محبت کرنے لگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْقَيْنُوتُ عَلَيْكَ مُحَبَّتَةٌ فَمَنِي وَلَنْصَعَ عَلَى غَيْبِنِي كَفَى غَيْبَنِي إِذْ نَهْشَى أَخْتُكَ مُنْقَرَّ اهْلَ أَذْلُكَمْ عَلَى مَنْ يَلْقَأْ فَرِجْعَنَاكَ إِلَى أَمْلَكَ كَمْ نَقَرَّ غَيْبَنِها وَلَا تَخْرُنْ وَقَتْلَتْ نَفَأْ فَنْجِينَكَ وَنَفَعَنَ الْغَمْ وَفَتَنَاكَ فَتَوَنَاً يَا مَقْلُبُ الْقُلُوبِ وَيَا مَسْخَرُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ السَّبْعِ فَلَبَّيْتْ لِفَلَانِيَتِهِ قَلْبَ فَلَانِ بِالْخَيْرِ لَإِذَا الْحَقْوَقَ يَا وَدْدَوْدَ لَحْبَ يَا وَدْدَوْدَ

٩٢ مندرجہ ذیل نقش اندھے پر لکھ کر اس اندھے کو سات روز تک آگ کی آئی ہے۔ اندھے۔
بے ذرا ہو جائے گا۔ اور مطلوب سے ملنے پر بھجو رہو گا۔

٩٣ فلان ابن فلان علی حب فلان ابن فلان
الباعده الواحة الواحة العجل العجل العجل العجل

٩٣ مندرجہ ذیل نقش کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ ۹۳ نقش روزانہ ۹۳ دن تک لکھے اور زمین میں دھا دیں۔ ۹۳ دن کے بعد روزانہ ۹۴ نقش لکھنے کا معمول ہنا ہے۔ انہیں بھی ساتویں روز یا میئے میں ایک مرتبہ زمین میں دھا دیں۔ جب کسی کو براۓ محبت نقش دینا ہو تو نقش کے نیچے طالب مطلوب کا نام لکھ کر وہ نقش دیں۔ ایک زمین میں دھبے گا۔ دوسرا طالب کے سیدھے ہے بازو پر باندھیں۔ انشاء اللہ مطلوب کے دل میں طالب کی محبت کی آگ بُرک اٹھے گی۔

نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۳	۲۶	۲۹	۱۶
۲۸	۱۷	۲۲	۲۶
۱۸	۳۱	۲۳	۲۱
۲۵	۲۰	۱۹	۳۰

٩٤ روزانہ سورۃ یسین سات مرتبہ پڑھ کر اپنے مطلوب کا تصور کر کے پڑھتے رہیں۔ اور چینی دہ کرتے رہیں۔ اسی طرح سات روز تک روزانہ مرتبہ سورۃ یسین پڑھ کر چینی پر دم کرتے رہیں۔ سات روز کے بعد یہ چینی اپنے مطلوب کو کھلانی یا پالانی شروع کریں۔ انشاء اللہ اس کے دل میں طالب کی محبت یہا ہوئی۔

٩٥ سورۃ اخلاص کا نقش بھی محبت کے معاٹے میں بہت زد اثر ہے۔ چون یہ اس وقت ہے مررتا ہے جبکہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دکھی ہو۔

طريقہ زکوٰۃ یہ ہے کہ روزانہ ۰۵۰ نقش لکھ کر آنے میں گولیاں ہنا کرو ریا میں ڈالیں۔ ۱۲۰ ادنیں میں زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس کے بعد یہ نقش برائے محبت جس کو بھی دیں گے فوراً اٹھ ہو گا۔ نقش معمتم یہ ہے۔

۷۸۶

الله	هو	قل
الله	الصلد	الله
لہم	لہ	ولم
لہ	کفوا	احد

زکوٰۃ کے بعد جب کسی کو یہ نقش برائے محبت دیں۔ تو نقش کے نیچے طالب مطلوب کا نام لکھ دیں۔ وہ نقش دیں۔ ایک درخت پر بنہ جوایں۔ ایک طالب کے سید ہے بازو پر۔

۹۶ نو چندی جمرات سے یہ شروع کریں۔ ایک سو ایک مرتبہ درج ذیل عزمیت پڑھیں۔ اول آخوندی رہ گیا رہ مرتبہ درود شریف پڑھیں لگا تارا کیس روز تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو کر حاضر خدمت ہو گا۔

اللَّهُمَّ اخْجِلْنِي مَحْبُوبَ فِي قَلْبِي بِحَقِّ يَا بُذُوْحَ يَا بُذُوْحَ يَا بُذُوْحَ
عمل کے دوران اپنے محبوب کا قصور جائے رکھیں۔

۹۷ نماز جمعری اذان کے فوراً بعد کسی کمرے میں اندھیرے میں بینہ کر تین سو مرتبہ یہ پڑھئے۔ اول آنہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔

۹۸ اپنے ۲۰ نہاریک جیس کر اگر کسی کوپان میں کھلادیں تو پان کھانے والا مطیع و فرمائیں اور ہو جائے۔ اور ناخن کھلانے والے کے حکم سے سرو انحراف نہیں کرے گا۔

۹۹ مندرجہ ذیل نقش تیار کریں۔ ایک نقش مطلوب کو گھول کر پاؤ ایں۔ دوسرا طالب اپنے سیدے ایں۔ انشاء اللہ مطلوب محبت میں بے قرار ہو گا۔

نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۲۱۶۸۹	۳۲۱۶۸۸	۳۲۱۶۸۷	۳۲۱۶۸۶
۳۲۱۶۸۷	۳۲۱۶۸۶	۳۲۱۶۸۵	۳۲۱۶۸۴
۳۲۱۶۸۶	۳۲۱۶۸۵	۳۲۱۶۸۴	۳۲۱۶۸۳
۳۲۱۶۸۳	۳۲۱۶۸۲	۳۲۱۶۸۱	۳۲۱۶۸۰

۱۰۰ مندرجہ ذیل وہ نقش تیار کریں۔ ایک درخت پر باندھیں۔ اور ایک طالب کے سیدے سے بازو پر باندھیں۔ انشاء اللہ بتے تاب و بتے قرار ہو گا۔

نقش یہ ہے۔

۷۸۶

ج	و	د	ب
۲	*	۶	۸
۶	۸	۲	*
*	۲	۸	۶

۱۰۱ اگر کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہو تو یہ عمل کریں۔ انشاء اللہ مطلوب شخص طالب کی محبت میں گرفتار ہو گا۔ طریقہ عمل یہ ہے کہ چھوڑ کعات نماز نصف شب کو تاریخ قمر ۱۳۔ بشرطیکہ چاند عورت میں نہ ہو۔ اول کسے۔ ہر رکعت میں سورۃ القاتحہ کے بعد حسینا اللہ و نعم الوکیل پارسی پیاس مرتبہ پڑھے۔ چھوڑ کعات ادا کرنے کے بعد نہ کوہ آیت کو ۵۰ مرتبہ پڑھ کر سات مرتبہ یہ آیات پڑھئے۔

يَعْثُوْنَهُمْ كَحْبُ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَمْتُوا أَشَدَّ حَبَّالَلَهِ وَلَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي
الْأَرْضِ جَهْنَمَ مَا أَلْفَتَ يَمِنْ فَلُؤُيْمَ وَلَكِنَّ اللَّهَ الْفَقِيلُ فَيَسْتَهِمُ إِنَّهُ غَنِيٌّ حَكِيمٌ
طَوَالْقِيْثُ عَلَيْكُمْ مُحْبَّةٌ مُنْتَهٌ وَلَتُنْصَعِنَ عَلَى عَيْنِيْ.

اس دوران اپنے مطلوب کا قصور اپنے دل میں رکھے عمل کے شروع آفرینیں گیارہ گیارہ مرتبہ درود

شريف ضروري ہے۔ انشاء اللہ بھر پور کامیابی ملے گی۔ اگر ان عمل کو لوگا تاریخ دن سمجھ کر تو کامیابی تجھی ہے۔
۱۰۲ مندرجہ ذیل عزیت و اذار کے قلم سے گاہ و زعفران سے لکھ کر اپنے سامنے لٹکائیں۔ جس دن
عمل کرنا ہواں دن ہر نماز کے بعد نوس پیاس مرتبہ اسم اللہ الرحمن الرحيم پڑھیں۔ ہر سکلے پر ایک بار یہ
پڑھیں۔

يَا حَمَدُهُ الْأَيْةُ الشَّرِيفَةُ وَالْأَسْمَاءُ الْمُنِيقَةُ بِحَقِّهَا عَلَيْكُمْ وَبِمَا
مِنَ السَّرِّ وَالْأَسْرَارِ وَالنُّورِ وَالْأَنوارِ حَرَّ كُوَازُوْ حَانِتَةُ وَاجْدَبُوا إِلَيْهِ فَلَانِ
ابنِ فَلَانِ عَلَى حَبِّ فَلَانِ ابنِ فَلَانِ . جَذَبَا يَكُونُ لَهُ فِيهِ رِضَا وَطَاغَةٌ وَ
مُحَبَّةٌ وَعَطْفَا وَذَابِحَقٌ تَعْقِدُونَهُ مِنَ الْقُوَّةِ وَالسُّطُوةِ عَلَيْكُمْ أَجِبْبُوا أَجِبْبُوا
أَجِبْبُوا إِلَهِيَا إِهِيَا إِلَوْهَا إِلَوْهَا العَجْلُ العَجْلُ السَّاعَةُ
وَقَسْكُمْ قَسَمَاً . مُبِرُورٌ أَوْ بَحْقٌ ابنُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ
مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِنِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

دوران عمل لوپان کی دھونی یتے رہیں۔ جب عامل دیکھے کہ نقش میں حرکت پیدا ہو گئی تو سمجھا کہ
ارواح حاضر ہو گئیں۔ اس وقت اپنی محبت کی کامیابی کی دعا کرے اور نقش کو اپنے بازو پر باندھ لے۔ اس کے
بعد جب طالب مطلوب کے پاس جائیگا اور نقش اس کے باتحم پر بندھا ہو گا تو مطلوب دیوانہ وار طالب کے
آگے جائے گا۔ اور محبت و عشق کا اظہار کرے گا۔

۷۸۶

الله	حسننا	الوکيل	ونعم	الله	حسننا
الله	حسننا	الوکيل	ونعم	الله	حسننا
الله	حسننا	الوکيل	ونعم	الله	حسننا

۱۰۳

سَمْعَقَ مُوسَى دِعَيْشَ بِحَقِّ دَافِدَ وَمُحَمَّدَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحَقِّ جَبَرِ اسْمَاعِيلَ
وَمُعِيكَا شَيْلَ مُلاسِرِ اسْمَاعِيلَ وَمُعِيزِ سِرِ اسْمَاعِيلَ مَ
فَهَمَّ لَا يَخْرُجُتُ الْحَبْ فَلَانِ عَلَى حَبِّ فَلَانِ ابنِ فَلَانِ .

۷۸۶

نقش یہ ہے۔

۱	يابذوح	يابذوح	يابذوح	۲
۳	يابذوح	يابذوح	يابذوح	۴
۵	يابذوح	يابذوح	يابذوح	۶

اکب ابن فلان علی حب فلان ابن فلان

۱۰۷ جو اورت یہ تجویہ اپنی پیشیاں میں باعث ہے اُنیں کامنہ اور مدارس پر جان شمار کرے گا۔
۷۸۶

بِحَقِّ مُوسَى دِعَيْشَ بِحَقِّ دَافِدَ وَمُحَمَّدَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحَقِّ جَبَرِ اسْمَاعِيلَ
وَمُعِيكَا شَيْلَ مُلاسِرِ اسْمَاعِيلَ وَمُعِيزِ سِرِ اسْمَاعِيلَ مَ

۱۰۸ جو شہر یہی سے محبت نہ کرتا ہواں کے پینے ہوئے کپڑے پر تھویہ لکھ کر فائدہ مان کر کرے چاہے
میں ضخیر رہن کریں۔ انشاء اللہ پحمدہ رقوں کے بعد اس میں حیرت انکہ تمہاری بیدا ہوگی۔ اور وہ اپنی بھی کا
دیخ اتنا ہو جائے گا۔ تھویہ یہ ہے۔

عَوْنَتْ عَلَيْكُمْ رَايَتَهُنَابِالسَّعْدِ الرَّوْسَايِسِ مِنْ أَقْتُونَهُ الْبَلِيسِ أَحْمَعَنِتْ بِلَهُلَا
هُرَّ الْعَطْرَةِ۔ الحب فلاں علی حب فلاں ابن فلاں

۱۰۹ اگر یہی کی محبت میں کوئی شدت پیدا کرنا چاہے تو مندرجہ ذیل آئیں کسی مشترکی پر گلاب در عفران
سے لکھ کر غورت کو پا دے اور اس محل کو ایک ماہ میں چار مرتبہ ہر صحرات کو کر لے۔ انشاء اللہ یہی دیوانہ وار
شہر کو چاہنے لگے گی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا يَبْدِي فِيهِ مَا تَنْهَا
إِلَيْنَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

۱۱۰ مندرجہ ذیل نقش منی کے کسی چہاٹ پر کافی روشنائی سے لکھ لے۔ اس نقش میں نقش کی اوپر والی
عبارت پر طالب کا نام پہلے اور مطلوب کا نام بعد میں لکھا جائے گا اور نقش کی نیچے کی عبارت میں مطلوب کا نام
پہلے اور طالب کا نام بعد میں لکھا جائے گا۔

عَلِيُّ ابْنِ ابْنِي مُؤْذِنٍ بِـ۔ اور یہ محل بھی خطاب میں کرتا۔ جب محل کا ارادہ ہوتا ہے چہاٹ لکھ کر کے
ہر روز نیا چاٹ تیار کرے۔ اگر در میان میں کامیابی میں جائے تو محل ترک کر دے۔ اس محل میں اکثر کامیاب
سات روز کے اندر اندر مل جاتی ہے۔ اور مطلوب کرنے قابلے پر ہو یا تو حاضر ہو جاتا ہے یا کسی بھی ذریعہ اپنے
کرنے کی طالب سے کوشش کرتا ہے۔ لیکن خدا نخواست اگر سات روز میں کامیابی نہ ملتے تو محل کرتا رہے۔

یہاں تک کہ ۲ چہاٹ ۲ دن میں پورے ہو جائیں۔ انشاء اللہ ۲ چہاٹ کامیابی میں جائے گی۔

چہاٹ روز کے روز اگلے دن پانی میں بہاتے رہیں۔ اور ہر روز نے چہاٹ میں نئی مل جائیں۔
زخون کے تین میں چہاٹ جلا میں۔ جب چہاٹ جلا شروع ہو۔ اس وقت "یا وَذَوْذَ" بالاعداد پڑتے رہیں۔

اور ۲ عدد دو کمی مرنے لیں۔ مطلوب کا تصور کر کے ایک مرچ پر ایک بار وہ مار قبیت اذ رفیت
ولکن اللہ رحمی پڑھ کر دم کر کے آگ میں ڈالیں۔ ایک آنکھیں وغیرہ میں کوئے جلا میں۔ مرچ ۲۰۰ گرام
تے زیادہ نہ لیں۔ اور ۲ منٹ کے اندر اندر یہ مر جیں ایک ایک کر کے آگ میں ڈالیں۔ اور اپنے مطلوب

۱۹۵	۵۲۸	۵۳۶	۱۱۱۶	۳۲۳	۲۵۱	۴۹۱
۴۹۱	۱۹۵	۵۲۸	۵۳۶	۱۱۱۶	۳۲۳	۲۵۱
۲۵۱	۴۹۱	۱۹۵	۵۲۸	۵۳۶	۱۱۱۶	۳۲۳
۳۲۳	۲۵۱	۴۹۱	۱۹۵	۵۲۸	۵۳۶	۱۱۱۶
۱۱۱۶	۳۲۳	۲۵۱	۴۹۱	۱۹۵	۵۲۸	۵۳۶
۵۳۶	۱۱۱۶	۳۲۳	۲۵۱	۴۹۱	۱۹۵	۵۲۸
۵۲۸	۱۱۱۶	۳۲۳	۲۵۱	۴۹۱	۱۹۵	۴۹۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُرَالَّهُ أَحَدٌ بِحُرْمَهِ جَبَرِإِلِيلُ اللَّهِ الصَّمَدُ
بِعُرْمَةِ إِسْرَائِيلُ الْعَبِيدُلُدُ بِعُرْمَةِ إِبِيكَيْلُ الْعَبِيدُلُدُ بِحُرْمَةِ عَزْرَائِيلُ الْعَبِيدُلُدُ
أَحَدٌ بِعُرْمَةِ دَدَائِيلُ سَدَائِيلُ۔

۱۱۱ مندرجہ ذیل محل ایکس روز کا ہے۔ روزانہ خلوات میں عشاء کے بعد ۳۶۰ مرتبہ اس محل کو پر چیزیں۔
اول آنٹر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاء اللہ پحمدہ ایک خود مطلوب کوشاق گزرے گی اور وہ طالب
سے نئے پر بھجو رہو گا۔ محل یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُرَالَّهُ أَحَدٌ بِحُرْمَهِ جَبَرِإِلِيلُ اللَّهِ الصَّمَدُ
بِعُرْمَةِ إِسْرَائِيلُ الْعَبِيدُلُدُ بِعُرْمَةِ إِبِيكَيْلُ الْعَبِيدُلُدُ بِحُرْمَةِ عَزْرَائِيلُ الْعَبِيدُلُدُ
أَحَدٌ بِعُرْمَةِ دَدَائِيلُ سَدَائِيلُ۔

تیج کو کسی بچا دار درست تی جز میں دادیں۔ انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو کر طالب
بپران اسی تیج کو کسی بچا دار درست تی جز میں دادیں۔ انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو کر طالب —

112 مذکورہ ذیل و تیش محبت کے معاملات میں بہت موثر اور زود اثر ہیں۔ ان دو نوں میں پہنچ کر کے
ہے ازدواج ہندھیں۔ اور دوسرا تیش تیش عدوی طالب اپنے باسیں بازو پر باندھے تو چندی جمارات کو سر
تیش باندھیں۔ اگلے دن داسیں بازو والا تیش داسیں بازو پر اور باسیں بازو والا تیش داسیں بازو پر
لے لے تیش باندھیں۔ اور روزانہ سات روز تک اسی طرح اول بدلتے رہیں۔ آٹھویں دن دو نوں تیش اپنے داسیں
لے لے۔ اور روزانہ سات روز تک اسی طرح اول بدلتے رہیں۔

ای میں کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تیش حرفی کسی کو رے جانے پر لکھ لیں۔ اور تیش عدوی مطلوب کے
پی اپنے کاغذ پر پورنہ سفید کاغذ پر لکھ کر فتیلہ بنائیں کہ اس کو زخون کے تیل میں روشن کریں۔ اور اگر دو نوں ہی
فریقہ پر میں کر لیں تو اور بھی بہتر ہے۔
تیش حرفی یہ ہے۔

۷۸۶

د	ا	ل	ا	ل	ل	ح	م	د
د	ا	م	ل	ح	ل	م	ا	د
د	م	ا	ل	م	ح	ل	ا	د
ل	ه	د	م	م	ل	ا	م	ل
ا	ل	ل	ه	م	ح	م	د	ا

عزمتُ علیکمْ وَ اقْسَمْتُ علیکمْ يَا اسْرَافِيلْ يَا طَاطِاِيلْ يَا دَوْرَيْاِيلْ
يَا دَرَبَاِيلْ يَا سَكْفِيلْ الْاِلْفَتْ فِلَانْ اِبْنَ فِلَانْ عَلَى قَلْبِ فِلَانْ اِبْنَ فِلَانْ
بِحَقِّ اِبْنِ نَفْشِ مَعْضُوٍ

تیش عدوی یہ ہے۔ اس کی رفتار پر پار کے اضافے کے ساتھ ہے۔ چونکہ تیش کر کا ہے اس لیے
تیجیں خانے پاٹیں مدد بڑھائیں۔

113 درج ذیل عمل کو تو چندی جمارات سے شروع کرتا ہے۔ اور اسم اللہ کے سیم کو سورۃ فاتحہ کے لام میں
ڈاکر پڑھتا ہے۔ شروع جمارات سے کر کے پھر ہر ہر کو یہ عمل مغرب کے بعد کرتے رہیں اور ہر کا دن اتوار
گز اور کر مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ چالیس مرتبہ چالیس دن تک پڑھنا ہے مطلوب کتنی
بھی دور ہواں دو ران یا تو حاضر ہو گایا رابطہ قائم کرنے پر مجبور ہوئے۔ عمل کے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درج
شریف پر میں۔ عمل یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ طَالِبُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَ مُلِكُ
عَلَيْهِ عِزٰزٌ الْمُغْصُوبُ عَلَيْهِ عِزٰزٌ لَا الْفَضَالَيْنَ مَا امْلَأَتِ الْاَيَّارُ اَعْمَلَتِ
اِنْ فِلَانٌ عَلٰی حَبْتِ فِلَانٍ اِبْنَ فِلَانٍ تَامِنَ نَكْشَابِعِكْسٍ نَكْشَابِعِكْسٍ يَادِ دَدِ يَالْطَّيْبِ يَادِ حَمْنَ وَ زَيْمَ
الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ السَّاعِدُ السَّاعِدُ الْوَعَالُ الْوَعَالُ الْوَعَالُ بِرَحْمَتِهِ يَا اَمْرَحَمِ الرَّاجِعِينَ

113 ایک موثر ترین عمل نقل کیا جا رہا ہے جو محبت کے معاملات میں بیک و غریب طور پر اثر انداز ہے
بے اور مقصد میں بھرپور کامیابی ملتی ہے۔

طریقہ عمل یہ ہے کہ ایک کاغذ پر ہری روشنائی سے یہ آیت کریمہ سی اسماہ چھار تحریر کریں۔
اک فلائیں فلائیں علی حب فلائیں اب فلائیں۔

لَقَدْ جَاءَكُفُورٌ سُؤْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُلُّ عَزِيزٍ عَلٰى مَا عَنِتُّهُ حَرِيفٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ مَرْدُوفٌ هَرِيجٌ مَفَانٌ تَوْلِيْزٌ اَفْقَلٌ خَسْبٰنِ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
لَهُتَّ الْعَظِيمُ.

اتا موسم لیں جس کے سودا نے تیج کے بن جائیں۔ اس موسم میں اس کو پکھلا کر بورا ملا لیں اور اس
کا نہ کوڑہ آیت لکھی ہوئی ہے باریک باریک کات کر دنگزے بھی اس میں ملا دیں۔ اس کے بعد
دانتے اس موسم کے بنائیں۔ اور ان میں سوراخ کر کے ہرے رنگ کے ذریعے میں ان سب کو پوریں۔ پھر اس
تیج کے نہ کوڑہ آیت سورتیہ پر میں سیح و شام۔ لگاتار تین دن تک یہ عمل کریں۔ تیج سورتیہ پر منے کے بعد اس
طالب خود پر ہدایت ہے اَللَّهُمَّ قَلْبِنِی عَلَى فِلَانٍ فِلَانٍ اِبْنَ فِلَانٍ اور اگر کوئی دوسرا شخص طالب کے لئے میں
کر دے تو یوں کے۔ اَللَّهُمَّ قَلْتَ فِلَانٌ عَلٰی حب فلائیں اب فلائیں صرف ایک ہی بار کہنے ہے۔

لکھی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ هُرَى عَلَى الْكُفَّارِ فَلَا يَعْلَمُ مِنْ حَيْثُ مَا يَتَكَبَّرُ
وَمَنْ أَخْدَى خَنْقَنَ فَيَعْلَمُ الْأَنْوَاتَ حَنْقَنَ فَلَا يَكُفِرُ كُفَّارُ قَوْمٍ
وَمَنْ هُرَى دَرَدَ دَرَدَ بَاهْجَنَ فَيَعْلَمُ الْأَنْوَاتَ حَنْقَنَ فَلَا يَكُفِرُ كُفَّارُ قَوْمٍ
وَمَنْ هُرَى مُعْبِدٌ يَأْمُعْبِدُ يَادَى الْعَرْبِشَ الْعَجِيدَ بَعْدَالَ بَعْدَ بَعْضِهِ
وَمَنْ هُرَى مُعْبِدٌ يَأْمُعْبِدُ يَادَى الْعَرْبِشَ الْعَجِيدَ بَعْدَالَ بَعْدَ بَعْضِهِ
وَمَنْ هُرَى غَرْغَرَ عَلَيْهِ مَا عَنِتَهُ خَرْبَقَ عَلَيْكَوْ يَالْمُوْ مِنْهُ مَنْ هُرَى غَرْغَرَ
وَمَنْ هُرَى الْأَهْوَاعَلَيْهِ غَوْكَتْ دَهُورَاتِ الْعَرْبِشَ الْعَجِيدَهِ أَهْيَا سَرَاهِيَا دَرْقَ حَوْلَهِ لَالَّ
وَمَنْ هُرَى أَنْمَاءَ الْكَرَامَ قَرْكَنَ الْفَاقِمَ وَبِعَنْيَ مُحَمَّدَهِ سُوْلَ أَهْدَ صَلَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَإِلَهٔ إِلَهٔ عَلَيْهِ غَوْكَتْ دَهُورَاتِ الْعَرْبِشَ الْعَجِيدَهِ أَهْيَا سَرَاهِيَا دَرْقَ حَوْلَهِ لَالَّ
وَبِعَنْيَ سَلَيْمَانَ اِبْنَ دَارْدَعَلَيْهِ الْلَّا لَهُ وَلِيْ حَقَ جَبْرَائِيلَ بَوْمِكَائِيلَ بَزَاسِرَادِينَ حَمْوَعَرَرَ اِشِيلَ
وَلَوْأَنْفَتَ مَابِيَ الْأَرَبِينَ۔

۷۸۶

۷۶۱	۷۳۳	۷۳۹	۷۹۳
۷۳۲	۹۸۷	۷۱۷	۷۳۷
۷۰۱	۷۵۳	۷۳۵	۷۱۳
۷۲۹	۷۰۹	۷۰۵	۷۰۰

اکٹ فلام ۲۳۱۲۸۱۲۳ فلام این فلام ۲۸۹۳

عُلیٰ حب فلام ۲۳۱۲۸۱۲۳ فلام این فلام ۹۳۲۸


۱۱۷ ایک بال اپنے سر کا اور ایک بال اپنی محبوب کے سر کا تکر ان دونوں کوسات گردیں۔ اور ہرگزہ پر
سچھ اور منگل کے علاوہ تکہر کے بعد شرف قمر میں مندرجہ ذیل نقش تیار کر کے با ترتیب انسیں جلا دے۔ کاہر
تمن دم تک یہ عمل کرے۔ درمیان میں اگر سچھ یا منگل آئے تو ایک چھوڑ کر تمن دن کی تعداد پوری کرے۔
اٹھا اللہ یوی آجائے گی۔

۱۱۸ طالب اپنے سامنے کوئی بھی عذر کر کر تم سما نہ مر جہے یہ مل پڑے۔ اللَّهُمَّ يَا وَدُودُ
أَنْتَ لِلْوَدُودُ وَدَ نَبِيٌ فِي قَلْبِ فِلَانِ اِبْنِ فِلَانِ بِرَحْفَتَكَ يَا أَزْحَمَ الرَّجْهَنِينَ
او عذر پردم کرے۔ جب اس عذر کو اپنے کپڑوں پر لکا کر طالب مطلوب کے پاس جائے گا مطلوب سکر ہو
جائے گا۔

۱۱۹ درج ذیل مل کسی بھی جھر پردم کر کے مطلوب کو کھلا جیں۔ اٹھا اللہ مطلوب سکر ہو گا۔ طریقہ اس کا
یہ ہے کہ رکھت قل بحد نیاز عشاء پڑے۔ ہر رکھت میں سورہ قاتحہ کے بعد آیت الحشری ٹیارہ مر جے۔ سورہ
اغاث کیا رہ مر جے اور سورہ قاتحہ کیا رہ مر جے پڑے۔ سلام و ہمیرے کے بعد یہ یاد دو دو ایک بزرگ مر جے پڑے۔
ہر ایک بزرگ مر جے یہ دو دو پڑے۔

یاد کر دو بعشق سلامہ ان اس داڑہ بعشق حصہ را بوس در حق اشویں جشت و دعویوب در حق محمد
لال اس فلاں براہ مر جے من ترسیاں مانتا ایم براہ کہہ براہ کہہ براہ براہ کہہ براہ براہ کہہ براہ
با مصوبہ با مصوبہ۔ مل یہ ہے۔


۱۱۹ جومورت شہر سے ہمارا پس ہو کر میکے چلی گئی ہو اور اس کو بانا مقصود ہو تو عروج ماہ میں کسی بھی ان
سچھ اور منگل کے علاوہ تکہر کے بعد شرف قمر میں مندرجہ ذیل نقش تیار کر کے با ترتیب انسیں جلا دے۔ کاہر
تمن دم تک یہ عمل کرے۔ درمیان میں اگر سچھ یا منگل آئے تو ایک چھوڑ کر تمن دن کی تعداد پوری کرے۔
اٹھا اللہ یوی آجائے گی۔



۱۲۰ مندرجہ ذیل مل کی پہلے زکوٰۃ نکالے۔ طریقہ ذکوٰۃ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل مل کو روزانہ ۴ ہمروز ۲
دن تک بعد نیاز عشاء پڑے۔ اگر پانچ عصر میں نہ ہو تو تو چھدی جمعرات سے شروع کرے۔ زکوٰۃ کی
واحی کے بعد اسی مل کو تین مر جے پڑے کر ایک مر جے یہ کرے۔ اللَّهُمَّ قلْتَ فِلَانِ اِبْنِ فِلَانِ عَلِيٰ صَبَقَ

۱۲۲ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بے قبیلہ و بیسان سے ہے تو اس میں کوئا کامیابی نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ میں مطلوب کے پیارے کے لئے ایک طرح میں بھروسہ ہو گا۔

فلاں ۷۸۶



۷۸۶ بَشِّيرٌ حَسَنٌ حَسَنٌ

۱۲۳ اگر کوئی عورت اس تعلیم کو کسی عامل سے یا کسی نمازی سے لکھوا کر اپنے گئے میں ڈالے گی اس کا شوہر اس سے محبت کرے گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۴

۱۱۱۲۳	ع	۸۹
۱۱۳	ع	۹۳
۱۱۲	ع	۹۴
۱۱۵	ع	۳۱
۱۱۴	ع	۱۴
۱۱۱	ع	۱۱
۱۱۰	ع	۱۹۹
۱۱۱	ع	۱۱۴
۱۱۱	ع	۱۱۲
۱۱۱	ع	۱۱۱

فلاں ابن فلاں علی حسب فلاں ابن فلاں

۱۲۵ قد شغفها خُبَا إِنَّا لِنَرَاهُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - گیارہ مرتبہ پڑھ کر کسی مشینی پر دکر کے مطلوب کو کھلانے۔ انشاء اللہ مطلوب پوری طرح متوجہ ہو گا۔

۱۲۶ اگر کسی کا محبوب اس سے روشنگ کر چلا گیا ہے اور وہ اس کو اپنے پاس ہے تو اس عمل کے اثر کثیر قدر تدیکھے۔ کس طرح محبوب اس کے پاس واپس آتا ہے۔

مرقد میں یہ کرنیش یہی کے پڑے پر تیار کر کے اس کو کسی بانٹی میں رکھ کر اگ سے بچے


اس میں کوئا کامیابی نہیں جائے گی۔ اول و آخر گیارہ گی رہ مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔

۱۲۰ شب جمع میں مطلوب کے کیزوں پر درج ذیل اسامی تحریر کرے۔ اس کے بعد اس کیزوں سے کیا جائے کہ کوئے چراخ زخم کا تسلی ڈال کر حق کو روشن کرے اور چراخ کے سامنے بینڈ کر باوضوسہ اخلاص ایک ہزار مرتبہ پر میں اور ہر سیکنڈ پر یہ کلمات تین مرتبہ پڑھے۔

وَكَلِيلٌ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَا عَبْدَ الصَّمَدِ بِعَقِّ تَعْتَقِلُ وَتَمَنُ هَذَا الْسُّورَةُ الْعَظِيمَةُ
بِعَقِّ فِلَانٍ أَبْنَ فِلَانٍ عَلَى حِبِّ فِلَانٍ أَبْنَ فِلَانٍ بِطُمْطُبِيَّشِ - تَطِبِّشِ - مَطْطُبُشِ - عَلَيْبُشِ - مَلَكُونِشِ
هَلَبُوشِ - تَوَكِلٌ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَا عَبْدَ الصَّمَدِ - بِجَلْبِ فِلَانَتَهَا مِنْ فِلَانَتَهَا إِلَى فِلَانٍ
أَبْنَ فِلَانَةِ الْوَحْيَا الْعَجِيلِ السَّاعِةِ -

۱۲۱ عشاء کی نماز کے بعد چار رکعت نسل ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ المزدوج دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر، تیسرا رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون۔ اور پچھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنی محبت کی کامیابی کی دعا کرے۔ اس عمل کو کامیابی ملے گی۔

۱۲۲ ایک دائرة کے چاروں طرف ۲۵ ع لکھیں۔ اس کے اندر دوسری دائرة ملائیں۔ اس دائرے پر ۱۲ مرتبہ ص لکھیں۔ اس کے اندر طالب و مطلوب کا نام لکھ کر طالب کے سیدھے بازوں پر بندھوادیں۔ انشاء اللہ مطلوب کے دل میں طالب کی محبت پیدا ہو گی۔



۳۱۲۹	۵۸۵	۲۱۸	۲
۲۹۲۲ ۳۱۱	۰	۲۱۲۷	۵۸۷
۰	۳۴۱ زیریں	۵۸۱ اشرف	۲۱۲۵
۵۸۳	۲۱۲۳	۰	۲۷۰

پہلے چار خانوں میں با ترتیب اسم بدوح تحریر ہے۔ پھر پانچویں خانہ سے آنھویں خانہ تک آئتی ہے۔ اس کے بعد اولوں کے اضافے کے ساتھ تحریر ہیں۔ پھر نویں خانہ میں طالب کا نام درج کر کے دو دو کے اضافے کے ساتھ چال پانچویں خانہ تک چلی گئی ہے۔ پھر تیرھویں خانہ میں زیریں کے اعداد میں ۶ گھنٹا کے اضافے کے ساتھ چال پانچویں خانہ تک چلی گئی ہے۔ اس مثالی نقش میں بھی لکھے ہیں۔ پھر دو دو کے اضافے کے ساتھ سلبویں خانے تک چال چلی گئی ہے۔ اس کے بعد دو دو کے اضافے کے ساتھ چال چلی گئی ہیں۔ عامل کسی کے لیے نقش بنائے تو دو توں کی ماوں کے نام لکھ کر ان کے مشترک اعدادی مناسبت سے نقش کی چال چلے۔ تب ہی طالب کو قائد پہنچے گا۔

۱۲۸ مدد و ذیل نقش آتشی چال سے پر کر کے اس کی پشت پر درج ذیل عبارت لکھیں اور اس نقش کو طالب کے گلی میں ڈال دیں۔ انشاء اللہ مطلوب طالب کی محبت میں بے قرار ہو گا۔ نقش یہ ہے۔

القيـت	القيـت	القيـت	القيـت
عليـك	عليـك	عليـك	عليـك
محبـة	محبـة	محبـة	محبـة
منـي	منـي	منـي	منـي

پہنچائے۔ اور آج چینچائے کا سلسلہ کے روز تک چاری رکھے۔ انشاء اللہ محبوب طالب کے قدموں میں آئے گا۔ نقش یہ ہے۔

۳۵۶	۲۰۰	۷	چدوج
۵	۲۲	۳۵۳	۲۰۲
۲۳	۱۱	۱۹۶	۳۵۲
۱۹۸	محبت	۲۶	۹

اس نقش میں جو آتشی چال سے بھرا گیا ہے۔ پہلے خانہ میں بدوح تحریر ہے۔ اس کے بعد دو دو کے اضافے کے ساتھ چال چلی گئی ہے۔ ۲۶، ۲۲، ۲۲ تک چار خانوں تک چال یہ ہے۔ پانچویں خانہ میں محبت تحریر ہے۔ اس کے بعد دو دو کے اضافے کے ساتھ ۳۵۲ تک چال چلی گئی ہے۔ ساتویں خانہ میں ۳۵۳ درج ہے۔ اس کے بعد دو دو کے اضافے کے ساتھ ۳۵۰ تک چال چلی گئی ہے۔ عامل نقش بناتے وقت نویں خانہ میں آنھویں خانہ میں ۳۵۶ درج ہے۔ نویں خانہ میں مطلوب کا نام ہے۔ عامل نقش بناتے وقت نویں خانہ میں مطلوب اور اس کی والدہ کا نام ہے۔ پھر دو دو کے اضافے کے ساتھ عدد لکھئے۔ اس دو دو کے اضافے ساتھ ہارہیں خانہ تک چال چلے گا۔

۱۲۹ مثالی نقش میں محمد نجم ۱۹۶ ہیں۔ اس کے بعد دو دویں خانہ میں دو دو کے اضافے کے ساتھ ۱۹۸ ہیں۔ پھر ہارہیں خانہ میں دو دو کے اضافے کے ساتھ ۲۰۲ ہیں۔ تیرھویں خانہ میں دو دو کے اضافے کے ساتھ ۲۰۰ ہیں۔ پھر ہارہیں خانہ میں دو دو کے اضافے کے ساتھ ۲۰۴ ہیں۔ سلبویں خانہ میں ۵، ۵، ۷، ۹، ۱۱ درج کر دیں۔ اب نقش تیار ہے۔ اس کو کوئی ہاشمی میں رکھ کر آج چینچائیں۔ انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو کر طالب کے پاس آئے گا۔

۱۳۰ "ام بدوح" کا ایک اور عمل برائے محبت یہ ہے۔ اس نقش کو لکھ کر طالب اپنے سیدے ہے۔ انشاء اللہ مطلوب محبت میں بے قرار ہو کر حاضر خدمت ہو گا۔ مثلاً طالب کا نام بے اشرف اور مطلوب کا نام ہے۔ ذریں تو اس کا نقش مثالی یہ ہے۔

۱۳۵ ایک بڑا مرتبہ روزانہ پالیس دن پر صیص۔ زکوٰۃ او ہوگی۔ اس کے بعد یہ نقش لکھ کر کسی کو بھی رائے روزانہ بارے محبت دیں گے تو کامیابی ملے گی۔ جب براۓ حب دیں تو نقش کے نیچے طائب مظلوب کام آئیں۔


۳۲۱	۳۲۲	۳۲۸	۳۱۲
۳۲۷	۳۱۵	۳۲۰	۳۲۵
۳۲۶	۳۲۰	۳۲۲	۳۱۹
۳۲۳	۳۱۸	۳۲۷	۳۲۹

۷۸۶ نقش یہ ہے۔

احب این فلاں علی حب فلاں این فلاں

۱۳۶ مندرجہ ذیل نقش لکھ کر طالب کی نوپی میں سلوادیں۔ انشاء اللہ مظلوب مخز ہو جائے۔

لکھ یہ ہے۔



۱۳۷ مرتبہ سورۃ قریش پڑھ کر کسی عذر پر دم کر کے طالب اپنے کپڑوں پر لکھ کر مظلوب کے پاس اٹے۔ مظلوب مخز ہو جائے۔ پڑھنے وقت اپنے مظلوب کا تصویر لکھ۔

۱۳۸ مندرجہ ذیل آیت کو لکھ کر دریا کے کوارے دوادیے۔ ہب تک مظلوب طالب کے پاس نہیں آئے گاں کو تراویخ آئے گا۔ ایک بارہ۔

رفقہ نقش کی یہ ہے۔

۷۸۷

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۳	۱۵

۱۳۳ درج ذیل نقش لکھ کر زمین کے نیچے ہادیں۔ انشاء اللہ مظلوب فریفت ہو گا۔

نقش یہ ہے۔

۷۸۸

۱۶	۱۱	۱۸
۱۷	۱۵	۱۳
۱۲	۱۹	۱۴

یاد دا ایں۔ یاد دا ایں بحق داں یاد دا ایں
یام را ایں بحق حیاچ یا جبرا ایں یامیکا ایں
بحق بیات الحب فلاں ہاں محبت فلاں ہر نار شود

۱۳۴ مندرجہ ذیل نقش لکھ کر کسی ہرے بھرے درخت پر لٹکا دیں۔ انشاء اللہ کامیابی ملے گی۔ اور مظلوب کو ہو گا۔ جو یہ ہے۔

۷۸۹

۶۲۶	۱۶۲۰	۷۰۳	۷۱۹
۷۰۲	۷۲۰	۹۲۵	۱۶۲۱
۷۲۱	۷۰۵	۱۶۲۸	۹۲۳
۱۶۲۹	۶۲۳	۷۲۲	۷۰۳

احب فلاں این فلاں علی حب فلاں این فلاں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَفَاهَا مَمْنُونَ تَقْتُلُ مَوَازِينَ بِهِ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ طَادَ لَعَامَنْ حَقَّتْ مَوَازِينَ بِهِ فَأَمَّهَ هَادِيَةَ طَرْمَاءَ دُرْزَكَ مَاهِيَةَ طَانَرِ حَامِيَةَ طَالِبَ فَلَالَ اِبْنَ فَلَالَ عَلَى حَبَّ فَلَالَ اِبْنَ فَلَالَ -

١٩٩	٢٠٣	٢٠٦	١٩٢
٢٠٥	١٩٣	١٩٨	٢٠٣
١٩٣	٢٠٨	٢٠١	١٩٧
٢٠٢	١٩٤	١٩٥	٢٠٧

۱۲۹ مندرجہ ذیل نقش کسی کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے تیر بھد ف ہے اس کو سیدھے بازو پر
پال سے لکھیں۔

١٩٣	١٦٧	١٧٠	١٥٦
١٦٩	١٥٧	١٦٢	١٦٨
١٥٨	١٧٢	١٦٥	١٦١
١٦٦	١٦٠	١٨٩	١٧١

اکب این فلائیں علی حب فلائیں این فلائیں
اں فلئیں کو ورے چراغ میں روشن کریں۔ اور رخ چراغ کا مطلوب کے گھری طرف رکھیں۔

اعو اد ٥ ظ ٨١١ ط ات عه ٥ ॥ ٥ ॥

الحب فلائیں این فلائیں علی حب فلائیں این فلائیں

۱۳۰ چیل کے سات پھول لے کر ہر ایک پھول پر سات سات مرتبہ وَلَقَدْ فَتَّا سُلَيْمَنْ وَ
الْبَشَّا عَلَى كُزُسِيَهَ حَسَدًا أَئُمَّ آنَابَ - فلائیں این فلائیں علی حب فلائیں این فلائیں -
پھول کسی پھول دار درخت کی جز میں دہادیں۔ اور ایک پھول کسی طرح مطلوب کو سمجھادیں۔

اکب اللہ مطلوب سخر ہو گا۔

٨	١١	١٣	١
١٣	٢	٤	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٣	١٥

۱۳۹ نقش نمبر ۲ زعفران سے لکھ کر اپنی نوپی میں ہی لیں۔ انشاء اللہ مطلوب سخر ہو گا نقش اتنی
پال سے لکھیں۔

٢٣٨٢	٢٣٨٦	٢٣٨٩	٢٣٨٥
٢٣٨٨	٢٣٧٦	٢٣٨١	٢٣٨٧
٢٣٧٧	٢٣٩١	٢٣٨٣	٢٣٨٠
٢٣٨٥	٢٣٧٩	٢٣٧٨	٢٣٩٠

اکب این فلائیں علی حب فلائیں این فلائیں

۱۵۲ مدد و بذل نقش طالب اپنے سید ہے بازو پر باندھے۔

۷۸۶

۲۱۲۸	۲۱۷۱	۲۱۷۳	۲۱۹۱
۲۱۶۳	۲۱۶۲	۲۱۶۷	۲۱۷۲
۲۱۶۳	۲۱۶۴	۲۱۶۹	۲۱۶۶
۲۱۷۰	۲۱۶۵	۲۱۶۳	۲۱۷۵

۱۵۲ جمادات کے دن طالب و مطلوب دونوں کے سروں کے بال سات سات عدد لیں اور من میں کھٹلی

بھی پنج رکھ کر سرات مرچہ سورہ هرون علی پڑھ کر بالوں پر دم کریں۔ اور ختم صوت پر ایک بار یہ کہیں۔ اکب فلاں
ن فلاں علی دب فلاں این فلاں۔ اس کے بعد ان بالوں کو سرخ رنگ کے کپڑے میں بند کر کے کھی میٹل کے
روت کی لڑائیں اور پاداں۔ ایک دن مطلوب کے دل میں طالب کی محبت پیدا ہوگی۔

۱۵۵ کسی بھی پنج پر دم کر کے مدد و بذل علی پڑھ کر مطلوب کو کھلاویں۔ ایک دن مطلوب کے دل میں
طالب کی محبت پیدا ہوگی۔

ثُرِيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . إِنَّمَا يَحْقِقُ حِجْرًا ثَيْلَ مِسْكَانَيْلَ
عَزَّزَ ثَيْلَ اسْرَافِيلَ ابْرَاهِيمَ اسْمَاعِيلَ اسْحَاقَ عَلَيْهِمُ الْأَزْلَامُ وَيَحْقِقُ
نَورَتَ اَنْجِيلَ وَفِرْقَانَ الْحَمِيدَ وَيَحْقِقُ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ
بَرَكَتَ اَبِنَ اسْمَاءَ وَكَلَامَ رَبِّانِيَ دَلَّ وَجَانَ وَهَفَتَ اَنْدَامَ فلاں این فلاں
عَلَى حُبِّ فلاں این فلاں مسخر گردانی۔

۱۵۶ طریقہ زکوٰۃ یہ ہے کہ نو پندری حصرات کو جلد تاز عشاہ، چار ہزار مرتبہ پرستیں۔ اس کے بعد جب
لگی مردات ہو صرف ۱۳ مرتبہ پڑھ کر کسی بھی طرح کی مخالفی پر دم کر کے مطلوب کو کھلاویں۔ اگر طالب خود
پڑھے تو مطلوب کا تصور کافی ہے۔ اگر عامل دوسرے کے لیے پڑھے تو فلاں این فلاں علی حب فلاں این

۷۸۷

۱۳	۲۰	۲۴	اکب این فلاں علی حب
۲۳	۲	۱۲	فلاں این فلاں
۳	۳۰	۱۶	۲۴
۱۸	۸	۶	۱۰
			۲۸

۱۵۱ اگر بیوی سرکش اور نافرمان ہو اور شوہر سے نہ رہتے تو شوہر مدد و بذل نقش اپنے بازو پر
باندھے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۸

۳۱۹۳۷۸	۳۱۹۳۸۱	۳۱۹۳۸۲	۳۱۹۳۷۰
۳۱۹۳۸۳	۳۱۹۳۷۱	۳۱۹۳۷۷	۳۱۹۳۸۲
۳۱۹۳۷۲	۳۱۹۳۸۲	۳۱۹۳۷۹	۳۱۹۳۷۱
۳۱۹۳۸۰	۳۱۹۳۷۵	۳۱۹۳۷۳	۳۱۹۳۸۵

۱۵۲ مدد و بذل نقش مطلوب کو پڑائیں۔

۷۸۹

۱۱۰۲	۱۰۹۷	۱۱۰۳
۱۱۰۳	۱۱۰۱	۱۰۹۹
۱۰۹۸	۱۱۰۵	۱۱۰۰

اکب این فلاں علی حب فلاں این فلاں

فلان کہنا ضروری ہے۔ عمل یہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَرِيبُهُ مَحْمُدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

۱۵۷ مندرجہ ذیل عمل ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر مکاپ کے بھول پر دم کر کے طالب مطلوب کو سکھائے انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو گا۔

وَاللَّهُ الْفَسْطَانُ عَلَى مَا تَصْفُونَ يَا رَفِيقُ يَا شَفِيقُ يَا لَطِيفُ يَا وَدُودُ

۱۵۸ اگر کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہو تو مندرجہ ذیل عمل لکھ کر اتوار کے دن کسی پرانی قبر میں دفن کر دیں۔ عمل یہ ہے۔

يَا تَمْحَلْنَا يَا طَلْوَعَ مَا مَاعِجَ ما مَعْبُو الْيَ يَا لَهَا نَا اهِيَاسُ
اهِيَا او صاوِنُ الرَّشْدِ اَيْ مِيِينُ ابْلَسِينَ وَ مِلِسِينَ الْحَلَا الْحَرَ الْحَلَا
الْعَجْلُ السَّاعَهُ الْوَحَا الْحَبُّ فَلَانُ ابْنُ فَلَانُ عَلَى حُبُّ فَلَانُ ابْنُ فَلَانُ
الْعَجْلُ السَّاعَهُ الْوَحَا.

۱۵۹ کسی کو مشق و محبت میں جلا کرنے کے لیے سات مرتبہ یا اللہ سات مرتبہ یا رحمٰن سات مرتبہ یا
لطیف لکھ کر یہ عبارت لکھیں۔

لَبِنَ قَلْبَ نَلَانَ اَبْنَ فَلَانَ رَاجِعَلَى عَنْدَهُ الْوَازِنَ
وَالرَّحْمَةُ رَاعِيَنَ وَالْفَقْرُوْنِيُّ. فَإِنْ تُرِكُوا نَفْلُ حُسْنِي اَللَّهُ لَا إِلَهَ اَلَّا هُوَ عَلَيْهِ
ذِرَادُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبَّ اَبْرَهِيْنِ كَيْفَ تَحْمِي الْمُوْتَقَيِّ قَالَ اَذْرِلُوْوَهُ مِنْ قَالَ بَلَى وَلَكَ اِيْطَمِينَ قَلْبِيْنِ ذَالِ بَعْدَ.
اَنَّ بَعْدَهُ مِنَ الْعَلَيِّنِ تَعْرِهُنَّ إِلَيْكَ شُوَّاجِعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُرْزَ اَنْتَمْ دَعْلَمْ بِاَيْتِكَ سَعَارَامْ
اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاَكْذَافِكَ يَا فَلَانَ اَبْنَ فَلَانَ خَاصِعَادَلِبَلَانَكَشْفَنَاعِدَكَ عَطَاءَكَ بَعْرُكَ الْبَرَادَ
حَلَابِلَهِ.

یہ کسی بھی طرح مطلوب کے سات مرتبہ ادا کر طالب اپنے گلے میں ڈال لے۔ انشاء اللہ مطلوب

۱۶۰ بہلی اندھی بھت میں گرفتار ہو جائے گا۔
مندرجہ ذیل عزیمت خوش کی کھال پر لکھ کر مطلوب کے گھر میں فتن کریں۔ مطلوب دیوانہ
بہم زیرت یہ ہے۔

۱۶۱ اَطْدَرْ حَمَ حَحْ حَعْ طَعْ عَطَاطا طَاطا طَاطا حَاصِرَصِ رَصْ
رسْ ۵۵۵ لَوْلَوْوَدُو کَهْ كَهْ کَهْ

۱۶۲ کسی کو محبت میں بے قرار کرنے کے لیے سات روز تک مندرجہ ذیل فتنیے جلانے جائیں۔ جھرات
کے دن سے شروع کریں۔ اور تین روئی لگا کر کورے چراغ میں سات روز تک لگا تاریخ ہون کے قتل میں فتحیہ
ہلائیں۔ مٹی کے سات کورے چراغ لکھ کر کھیں۔ بدھ گزر نے کے بعد جورات آتی ہے اس سے جلانے کی
ٹردہات کریں۔ اس ترتیب سے جلائیں۔
ٹردہات۔

۱۶۳ ط ۳۳۳ ۷ ۳۳۳ ۷ ۳۳۳ ۷ ط ۹ ۳۳۳

اَحْبَابْ اَبْنَ فَلَانَ عَلَى حُبُّ فَلَانَ اَبْنَ فَلَانَ

لوری رات۔

۱۶۴ ط ۳۳۳ ۷ ۳۳۳ ۷ ط ۹ ۳۳۳

اَحْبَابْ اَبْنَ فَلَانَ عَلَى حُبُّ فَلَانَ اَبْنَ فَلَانَ

نیری رات۔

۱۶۵ ط ۳۳۳ ۷ ۳۳۳ ۷ ط ۹ ۳۳۳ ط

اَحْبَابْ اَبْنَ فَلَانَ عَلَى حُبُّ فَلَانَ اَبْنَ فَلَانَ

چشمی رات۔

۱۶۶ ط ۳۳۳ ۷ ۳۳۳ ۷ ط ۹ ۳۳۳

اَحْبَابْ اَبْنَ فَلَانَ عَلَى حُبُّ فَلَانَ اَبْنَ فَلَانَ

پانچ سو رات۔

بھر اس میں ۲۲ کا اضافہ کر کے ۲۲۸ کو خانہ اول باد میں رکھیں اب اعداد و محبت جو کر ۳۵۰ ہیں۔ ان کو خانہ
بھی۔ بھر اس میں رکھیں۔ پھر اس میں ۲۲ کا اضافہ کر کے ۲۷ کو خانہ آب سوم میں رکھیں پھر اس میں ۲۲ کا اضافہ
آب دوم میں رکھیں۔ پھر اس میں ۲۲ کا اضافہ کر کے ۴۵ کو خانہ آب اول میں رکھیں۔
کر کے ۲۹۲ کو خانہ آب چہارم میں رکھیں۔ پھر اس میں ۲۲ کا اضافہ کر کے ۵۱۶ کو خانہ آب اول میں رکھیں۔
لئے کے صرف چارخانے باقی رہ گئے ہیں۔ آیت ۷۱ نے لئے کے خاتمۃ اللہ عزیز

الْحَجَّ أَخْرِيٌّ) اعداد ۹۱۵۸ ہیں۔

اب یہ کریں کہ اعداد آتش اول اعداد باد چہارم اور اعداد آب سوم کو جمع کر کے ۹۱۵۸ میں سے لٹھاؤں۔

۳۱۶

اعداد آتش اول

۲۸۶

اعداد باد چہارم

۲۷۲

اعداد آب سوم

۱۰۱۳

ان کو ۹۱۵۸ میں تفریق کیا۔

۱۰۱۳

۹۱۵۸

۸۱۳۳

۸

اب ان اعداد کو جو ۸۱۳۳ ہیں۔ خانہ دوم خاک میں رکھیں۔ پھر اس میں ۲۲ کا اضافہ کر کے خاک سوم
میں رکھیں۔ پھر اس میں ۲۲ کا اضافہ کر کے خاک چہارم میں رکھیں۔ پھر ۲۲ کا اضافہ کر کے خاک اول میں رکھیں۔
اوپر پڑھیں۔ پھر اس لکڑی کو اسی برتن میں جلا کر راکھ بنا لیں۔ اور یہ راکھ حفظ کر لیں۔ پھر یہ راکھ کی یعنی
چیز میں ملا کر مطلوب کو کھائیں۔ اور کرشمہ قدرت دیکھیں۔

۱۶۳ علم بہذ کا یہ ایک نادر عمل ہے۔ اس کو شرف قمر، ساعت زہرہ یا ساعت مشتری میں کیا جائے۔
طریقہ اس عمل کا یہ ہے کہ مطلوب اور اس کی ماں کے اعداد نکال کر نقش کے خانہ دوم میں رکھے۔

مشائی مطلوب کے اعداد مع والدہ ۲۵۰ ہیں۔ تو ان کو خانہ دوم آتشی میں رکھیں۔ اس میں ۲۲ کا
اضافہ کر کے ۲۷ کو خانہ سوم آتشی میں رکھیں۔ پھر اس میں ۲۲ کا اضافہ کر کے ۲۹۲ کو خانہ چہارم آتشی
میں رکھیں۔ پھر اس میں ۲۲ کا اضافہ کر کے ۳۱۶ کو خانہ اول میں آتشی میں رکھیں۔ اسی طرح طالب مع والدہ
اعداد نکال کر کاروانی کریں۔ مشائی طالب کے اعداد مع والدہ ۱۸۲ ہیں۔ تو ان کو خانہ دوم باد میں رکھیں۔ پھر اس
میں ۲۲ کا اضافہ کر کے ۲۰۳ کو خانہ سوم باد میں رکھیں۔ پھر اس میں ۲۲ کا اضافہ کر کے ۲۲۶ کو خانہ چہارم باد میں

خاک دوم	۰ آتش اول	باد چہارم	۰ آب سوم
خاک سوم	آتش چہارم	باد اول	آب دوم
باد دوم	آتش سوم	خاک چہارم	آب اول
آب چہارم	آتش دوم	خاک اول	آب سوم

۱۰۵ ॥ ط م و

اچب ابن قلاں علی حب قلاں ابن قلاں

چھٹی رات۔

۱ ط ۳۳ ۱۱ م ل ط ۳۳ ط ۳۳

اچب ابن قلاں علی حب قلاں ابن قلاں

ساتویں رات۔

۱۱ ع د ۱۱ اه ال ۹ و ۱۱ و و ۳۵

اچب ابن قلاں علی حب قلاں ابن قلاں

۱۶۲ ”غایب“ تیار کرنے کا طریقہ۔ یہ غایب محبت میں اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نو چندی اور
کو طلوع آفتاب کے وقت ایک گھنٹے کے اندر اندر اونٹ کے درخت کے پاس اس نیت سے جائیں کہ اس کی
لکڑی برائے محبت در کار ہے۔ لکڑی کا نتے ہوئے آہستہ سے کہیں۔ کہ میں تجھے محبت کے لیے لے کر جارہا
ہوں۔ اس لکڑی کو کسی کپڑے میں پہیت لیں۔ تاکہ اس پر سورج کی شعاع نہ پڑ سکے۔ پھر اس کو سائے میں
ٹک کر لیں۔ جب بالکل ٹک ہو جائے تو پھر اتوار ہی کے دن اس کو کورے مٹی کے برتن میں رکھو دیں۔ اور
ایک سو ایک مرتبہ آیت پڑھ کر دم کر دیں۔ بنسم اللہ الرحمن الرحيم ط و اذ فلنا۔

باد ضور پڑھیں۔ پھر اس لکڑی کو اسی برتن میں جلا کر راکھ بنا لیں۔ اور یہ راکھ حفظ کر لیں۔ پھر یہ راکھ کی یعنی
چیز میں ملا کر مطلوب کو کھائیں۔ اور کرشمہ قدرت دیکھیں۔

نقش جس کی تحریک سے پر ہو گا اس کی رہنمائی اس نقش سے حاصل کریں۔
نقش یادو ج

نکھن۔ غوس۔ دی توں۔ هنسغوس۔ مکھنوس بطلیہ فلاں این فلاں

نکھن۔ غوس۔ اس کے بعد یہ زبان مطلوب کو کھلا دیں۔ اس پر طالب کی دیواری طاری کی وجہ سے گئی
فلاں این فلاں۔ اس کے بعد یہ زبان مطلوب کو کھلا دیں۔ اس پر طالب کی دیواری طاری کی وجہ سے گئی۔
فلاں این فلاں اور پانی میں چینک دے (زکوٰۃ ادا ہو گی) ۱۶۵

یہ غیر مسلم عاملوں کے لیے ہے۔ اس کو غیر مسلم عاملین غیر مسلم بھائیوں کے لیے کرے۔ زکوٰۃ کے
بعد بہ اس عمل سے فائدہ اٹھاتا ہو تو اس عمل کو سو مرتبہ پڑھ کر صرف ایک مرتبہ یہ کہیں۔ گتیش دیوتا! میرے
فلاں این فلاں کو اس کے مطلوب فلاں این فلاں سے ملا دے۔ میں نے تیرا حق ادا کر دیا۔ اور اگر
فلاں این فلاں کو اس کے مطلوب فلاں این فلاں سے ملا دے۔ میں نے تیرا حق ادا کر دیا۔

فلاں خود کرنے تو عمل کے بعد یہ کہے۔ گتیش دیوتا۔ میرا بحوب بمحض سے ملا۔ میں نے تیرا حق ادا کر دیا۔
عمل یہ ہے۔ اونچی تجو۔

۱۶۶ ان بخیری لکھی لا کر کسی کرتی کے مارے اس کے بعد اسن کو جلا کر اس کی راکھہ بنالے اور اس را کھ پر
”بفضل دو و دو بحق دو و دو“ ۱۳ سو مرتبہ پڑھ کر دم کرے پھر اس کو جب کسی طالب کو دے تو اس پر ۱۳ مرتبہ این
فلاں علی حب فلاں این فلاں کہہ کر دے۔ اس عمل میں عامل مسلمان ہونا چاہیے۔ البتہ عمل غیر مسلمین کے
لیے کیا جائے۔

۱۶۷ یہ عمل بھی مسلمان عامل غیر مسلم بھائیوں کے لیے کر سکتا ہے۔ طریقہ عمل یہ ہے سات مرتبہ مندرجہ
ذیل متر پڑھ کر دو تو رہ گل دھوپ پر دم کر دے۔ اور اس کو پختی کے درخت کی جرمیں دبادے۔ اگلے دن پھر
سات مرتبہ پڑھ کر دو تو رہ گل دھوپ پر پڑھ کر اسی درخت کی جرمیں اس کو جلاتے جائیں۔ اور عمل پڑھتے
جا کیں۔ انشاء اللہ پر دو غیر بے پاقچ پھول آ میں گے ان پانچوں پھولوں پر بھی بھی عمل پڑھیں۔ سات
مرتبہ یہ پھول غائب ہو جائیں گے اور مطلوب کے پاس پہنچیں گے۔ اور اپنی خوبیوں کے دماغ میں
پہنچا کیں گے۔ انشاء اللہ اسی وقت مطلوب فریفت ہو گا۔

۱۶۸ نہ ہے۔ پھر مکال مصحح کے فلوں گجرہ کھاؤں آئہ پھر بیس گھری

جئک موقن میدانوں بحق فلاں این فلاں علی حب فلاں این فلاں۔

۱۶۹ یہ عمل غیر مسلم عامل غیر مسلم بھائیوں کے لیے کرے۔ عمل یہ ہے۔ آویں رات کو پہنچ کے درخت

۷۸۶

ج	و	د	ب
و	ب	ج	د
د	ج	و	ج
ج	و	ب	و

۷۸۶

۸۱۲۲	۲۷۲	۲۲۶	۳۱۶
۲۹۳	۲۳۸	۲۵۰	۸۱۶
۵۱۶	۸۱۸۸	۲۷۲	۱۸۲
۲۰۳	۲۵۰	۸۲۱۰	۳۹۳

اس نقش کے نیچے یہ عزیت لکھی جائے گی۔

اللَّهُمَّ أَعُجُّ بَيْنَ نَامِ طَالِبِي وَالدَّهِ وَبَيْنَ نَامِ مُطْلُوبِي إِنَّا
يَا جَامِعَ النَّفَرِ دِينَ بَعْدِ أَيْتَنَاكَ مُؤْمِنَنَّا لِتَأْسِيَّتِنَا حُبُّ الشَّهَادَةِ مِنَ الْبَشَرِ وَالْمَنَاطِقِ
بَيْنَ الدَّهَبِ وَالْعَصْبَدِ الْجَيْرِ السَّوْمَةِ وَالْأَنْعَادِ وَالْمَرْبَثِ ذَلِكَ مَنَاعُ الْعَيْرَةِ الْدُّنْيَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
خُنُّ النَّابِ۔

نقش یادو ج کے نیچے لکھیں۔

اللَّهُمَّ قَلِيلُ فِلَلَ فِلَلَ اِنْ فِلَلَ عَلَى حَبِّ فِلَلَ اِنْ فِلَلَ يَا مَقْلَبَ
الْقُلُوبِ۔

۱۶۴ اتوار کے دن بدہ ذبح کر کے اس کی زبان پر ۳۱ مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دم کرے۔

کے پیچے جو اس جملہ کر کر گیرہ ہڑا مرجت پڑھے اس کے بعد جو اس کا پچھا ہوا تھون کا جملہ قابل کراپنے ہے اس کو
لے۔ اور چون غیر جملہ میں کسی جملہ کے درخت کے پیچے اپلاسے یا اسی درخت کی لزاں دیا ہے جو اس میں
پڑھا جائے۔

اس جملہ کو اپنے سر میں لے کر مطلوب کے پاس جائے۔ انشاء اللہ وہ اسی وقت فریفٹ ہو گا۔ جب
دوسرا کو ہیں تو جملہ پر ایک فلاں این فلاں علی حب فلاں این فلاں تین مرتبہ پڑھ کر دم کر کے دیں۔
مترتبہ ہے۔ چون چھوڑے چھوڑنے تک من موتی ناگ میں من موجنی و نہ اونچن پاؤں پڑھے۔
۱۶۹ اس میں کو عامل مسلم بھائیوں کے لیے کر سکتا ہے۔ اس کوئی وکایے کے تھی میں کوئی
چوائی میں جلائے۔ انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو کر طالب سے ملے گا۔
لکش یہ ہے۔

هو الودود

لا	لا
زعد	محمد
جفت	جفت

۱۷۰ یہ طریقہ میں طالب خود کر سکتا ہے۔ اس میں کسی بھی عامل کی مدد سے کام نہیں چلے گا۔ یہ طریقہ کیلئے
بھی مرسوں اپنی بیوی کے لیے کرے تو بہتر ہے۔ یہ ایک تحریکی نو تکہ ہے۔ اور صرف بیوی کے لیے کارہ
سکتا ہے۔ بیوی ہندو ہو یا مسلمان اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

طریقہ یہ ہے۔ آوار کے دن سورج نکلنے کے بعد ایک گھنٹے کے اندر ہمسان گھات کی مٹی ان کا
لاؤ۔ اس میں اپنا ماہ و منوی اور اپنا العاب و اہن طاکر اس کو بخورد سکھئے۔ اور یہ میں پڑھے۔ فلاں این فلاں
میری محبت اور میرے حشق میں دیوان ہو کر بھجھے سے ملے۔ پھر اس کا ایک نلہ ہنا کر مطلوب کے گھر میں گاڑے
مطلوب فریفٹ ہو گا۔

۱۷۱ تو چندی میں کو اپنے تیسون ہائی ترائیے اور دو میں تک ایسا ہی کرے تھرے میں سکل این فلاں
کو جلاٹے اور جلاٹے وقت لو ہاں اور کوگل کی دھونی وے۔ اس طرح رکھا تارہ بانجی دن تک دھونی ان بنے ہوئے
ہیں کو سامنے رکھ کر عامل بیتا رہے۔ پھر ان کو ہماریک پہاڑا کر رکھ لے۔ ان ہائیوں کو کسی بھی بیڑی پر ہی نہیں ہوئے

بسم اللہ الرحمن الرحيم

يَا وَدُودُ بَلْكَ فَسْمَعِينَ وَلَكَ الْحَمْدُ

پھر پورا ہونے کے بعد اگر عالم کسی بھی طالب کے لیے ۲۳۹۰ مرتبہ پڑھیں۔

فلاں ۱۱۰۰ بھی پان دھیرہ میں مطلوب کو کھائے گا تو مطلوب طالب پر فریفٹ ہو گا۔ لہن، بہ کی کے لیے

ہائی اس لہن را پڑھے۔ يَا وَدُودُ بَلْكَ فَسْمَعِينَ وَلَكَ الْحَمْدُ کا کہ فلاں این فلاں میں سے

فلاں این فلاں شکر وہذا ۱۱۰۰

۷۷۶ کے! قبیلہ عربی بصرت کو خود نہ لے اگر تھی جیسا درج ہے میری پڑیتے کے صدر سے مسکن مشریق اور کفر کے مدد پرستے دلت اپنے سر سے تھوڑے تاریخی عمارت کا نام عمارت میری کرتے کے صدر سات مرتب "یادویو" پڑھیں۔ میر شکر پر دم کرتے تھیں۔ اس طرح سات مرتب شکر پر دم کر کے۔ سرہ مسکن پونچ کر کیں۔ اس آنحضرت مسیح موعود کریں۔ سرہ مسکن کی حدود کے صدر میں مرتب پر مسکن یا الہی فلاں ابن فلاں علی سے فتوحت فلاں سے شکر مطلوب کو کھلاندیں۔ ایک دفعہ تقریباً عصیان

۷۷۷ پھے کے چالیس دلتے سے کمر ایک دلتے پر سورہ قرآن ایک ایک مرتب یاد کر کے مدد پر ایک ایک کر کے پھے کے دلتے آنگ میں ڈالیں۔ دورہ میں کوئی بھی حیر رکھیں۔ حب و فکل الانسان مالکہا۔ پر مسکن تو یہ کلات زیان سے ڈال کریں۔ وَرَأَنَّ لِوَازِلَرَ أَلَا شَدِيدًا وَجْفِيعَ حَوَارَ فلاں ابن فلاں علی حب فلاں ابن فلاں اس کے بعد سوڑہ مصل کریں۔ اول و آخر گیارہ مرتبہ دوسری پر مسکن۔ دورہ میں کوئی چار تین دن بیک کریں۔ اس لیے کل ۲۸۰ پھے لے کر میں کی شروعات کریں۔ تو چھری بصرت سے شروع کریں تو بہتر ہے۔ انشاء اللہ تین دن کے اندر اندر کامیابی میں ٹکے گا۔ اگر خدا غنوات کامیابی میں ٹکے گا، سات روز بیک مصل کریں۔ یہ میں خود طالب اپنے لیے کرے۔ میں دوسرا سے کرنا نجیک نہیں ہے۔

۷۷۸ ۱۷۹ یہ میں بھی طالب اپنے لیے خود کر سکتا ہے کسی عالم سے کرنا نجیک نہیں ہے۔ میں یہ بے ایک دلار شربت خود تیار کریں۔ اس شربت میں کیوزہ اور گلاب بھی ڈالیں۔ میں بصرت کے دن کریں۔ دورہ میں بعد کریں۔ ۱۸۰ سو مرتبہ "یا وَوَوَوَوَ" پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دوسری پر مسکن۔ اس کے بعد اپنے محظی کا تصور کر کے یہ شربت خود پی لیں۔ اور تھوڑا اس بچا کر کسی ہرے بھرے درخت کی جڑ میں ڈال دیں۔ زمین کھونے کی ضرورت نہیں۔ اس میں کوئی چار تین دن کریں۔ انشاء اللہ کامیابی ملے گی۔

۷۷۹ ۱۸۰ اگر کسی کو اپنی محبت میں بے قرار کرنا ہو تو اس عبارت کو شکر پر دم کر کے کھلائیں۔ مطلوب مطہی اور بقرار ہو گا۔ اگر مطلوب کھلانا ممکن نہ ہو تو جو میتوں کو کھلایاں۔ میں یہ بے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِنَّمَا يُشَرِّكُ بِنَاهِيَةِ السَّمَاءِ وَأَعْنَابِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا يُشَرِّكُ بِمَا لَمْ يَرَ وَمَا يُؤْمِنُ بِمَا لَمْ يَرَ

۷۸۰ ۱۸۱ زک اور رند کا نقش امور محبت میں تحریر بہدف کا درجہ رکھتا ہے۔ اس طریقے پر مصل کر کے مطلوب کو اپنی غلام ہتایا جا سکتا ہے۔ چال اس نقش کی آتشی رہے گی۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ طالب کے اندرا من والدہ لیں۔ اس میں ۲۸۲ کا اضافہ کریں۔ مطلوب کے اعداد میں مع والدہ لیں۔ اور اس میں ۲۲۰ کا اضافہ کریں۔

عکس یہے

۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷

۷۸۱

۱۸۸	۱۸۹	۱۹۰	۱۹۱
۱۸۹	۱۹۰	۱۹۱	۱۹۲
۱۹۰	۱۹۱	۱۹۲	۱۹۳
۱۹۱	۱۹۲	۱۹۳	۱۹۴

۷۸۲

۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸

نقش یہے

۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶

۷۸۷

۱۹۸	۱۹۹	۲۰۰	۲۰۱
۱۹۹	۲۰۰	۲۰۱	۲۰۲
۲۰۰	۲۰۱	۲۰۲	۲۰۳
۲۰۱	۲۰۲	۲۰۳	۲۰۴

۷۸۸

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۳	۱۵

نوے خانہ میں لکھا جائے گا۔ علی حب حسن ابن سلمہ۔
۱۶ اوے خانہ میں لکھا جائے گا۔ اب زینب بنت نسیم۔

طالب والا نقش مطلوب کے بندھے گا اور مطلوب والا نقش طالب کے بندھے گا۔ اگر مطلوب کے نقش باندھنا مشکل ہو تو مطلوب کے گھر میں لٹکا دیں۔

اگر یہ نقش اس وقت لکھیں جب قربنگ اشرف میں ہو تو تاثیر کمال درجے کی ہوگی۔ ورنہ جوئے دن ساعت زہرہ میں نقش لکھیں۔

زک اور رفڈ کا طریقہ اول اس طریقے میں سمجھا دیا گیا ہے۔ اور مثال کے ذریعہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس تفصیل کو سامنے رکھ کر عالمین حضرات دوسرے ضرورت مندوں کے لیے نقش خود بناسکتے ہیں۔

۱۸۲ زک اور رفڈ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طالب و مطلوب مع والدہ کے اعداد میں۔ زک اور رفڈ کے اعداد شامل کر کے ان میں سے ۶۰ عدد لٹکا دیں۔ اور ۳ سے تقسیم کے بعد حاصل تقسیم کو خان اول میں رکھ کر دو کے اضافے کے ساتھ نقش پورا کریں۔ مطلوب والا نقش طالب کے گھر میں لٹکا دیں۔ اور طالب والا نقش مطلوب کے گھر میں لٹکا دیں۔ انشاء اللہ مطلوب بیقرار ہو کر طالب کے پاس پہنچ جائے گا۔ مثال۔

سلیمان زرینہ۔

۲۵۳	نیسم بنت جیلہ
۲۲۰	اعداد روک
۸۸۵	
۶۰	

چونکہ کس آرہی ہے اس لیے ۱۳ اوے خانہ میں ایک کا اضافہ ہوگا۔ نقش دو دو کے اضافے کے ساتھ ۶۰

خانہ میں کا اضافہ ہوگا۔ نقش یہ ہے۔
نقش اول یہ مطلوب کے گھر میں لٹکے گا۔

۷۸۶

۲۲۶	۲۲۶	۲۲۳	۲۰۶
۲۳۱	۲۰۸	۲۱۸	۲۲۸
۲۱۰	۲۲۷	۲۲۲	۲۱۶
۲۲۳	۲۱۳	۲۱۲	۲۲۵

۲۵۳ ۲۵۲
نیسم بنت جیلہ

۳۱۲
لیام ان ذرینہ
۲۸۳
ہزار فنڈ

۹۳۹
۶۰
۶۳

۸۸۹

۲۲۲
 $\overline{28892}$
 $\begin{array}{r} 8 \\ \times 8 \\ \hline 64 \\ \begin{array}{r} 8 \\ \times 8 \\ \hline 64 \\ \begin{array}{r} 8 \\ \times 4 \\ \hline 32 \\ \begin{array}{r} 1 \\ \hline 0 \end{array} \end{array} \end{array}$

کر آرہی ہے اس لیے ۱۳ اوے خانے میں ایک کا اضافہ ہوگا۔ نقش کی چال دو دو کے اضافے کے ساتھ چلے گی۔ اور ۱۳ اوے خانہ میں بجائے ۲ کے ۲ کا اضافہ ہوگا۔

نقش یہ ہے۔

نقش دوم یہ طالب کے گھر میں لٹکے گا۔

۷۸۶

۲۲۶	۲۲۶	۲۲۹	۲۲۲
۲۲۷	۲۲۷	۲۲۲	۲۲۲
۲۲۶	۲۵۳	۲۲۸	۲۲۲
۲۲۰	۲۲۰	۲۲۸	۲۵۱

ٹالے میں طلب کے گھر میں لے گا۔

۸۶۲

A	B	C	D
۴۷۹	۲	۷	۱۲
۳	۴۷۱	۹	۶
۱۰	۵	۳	۹۳۰

ان نقش کو صحیح طریقے سے بنا کر اگر استفادہ کریں گے تو ان کی ہاتھ سے حجت ہو گی۔ کیونکہ زکر
زندگی کی بیت کے معاملات میں جادوی اثر رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساریں ہمارے آہوں گے۔

۱۸۲ زکر اور رفدا کا چوتھا طریقہ یہ ہے۔ یہ طریقہ بھی امورِ محبت میں تجزیہ بہدف کی حیثیت رکھتا ہے اور
اہل کے ذریعہ حیرت انک کا میابی ملتی ہے۔

اہل کو ہم ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ مثلاً زید ابن مریم بکرا ہیں آسیہ سے دوستی اور محبت رکھتا ہے اور اپنے
مطلوب کو اپنے بس میں کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ زید طالب ہوا اور بکر مطلوب اس عمل کی
سہرت اخراج یہ ہے۔

۲۹۸	۲۱۱	عدد طلب میں اکم والدہ	۲۱۱	عدد طلب میں اکم والدہ
۲۲۰	۲۸۳	امداد رفڈ	۵۹۵	امداد رفڈ
۵۱۸	۵۹۵	نصف کیا	۲۹۴	نصف کیا
۱۵۵۱۸۲۵۹	۲۹۴	نصف کیا	۲۹۵	نصف کیا
۳	۱۹		۱۸	
۱۱	۱۵		۱۵	
۱۰	۱۳		۱۳	
۱۸	۱۱		۱۱	
۱۸	۱۰		۱۰	
۲۵۹	۱۰	وضع	۲۹۶	وضع
۲۵۵	۱		۲۹۷	

۱۸۳ زکر اور رفدا کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ طالب و مطلوب میں اہدوں کے احمد و
شاہل کر کے ۲۱ گھنٹوں میں کوئی نقش کی چال بھی ایک سے ۱۲ تک ایک ایک کے اضافے
کے ساتھ پوری کریں۔ ۱۳ وے گھنٹے میں ۲۱ گھنٹے کے بعد جو احمد آئے تھے ان کو رکھ دیں۔ اور ایک ایک
کے اضافے کے ساتھ نقش عمل کر لیں۔ اس نقش میں کسر نہیں آتی۔

مثال یہ ہے۔

سلیمان بن زرینہ

نیسر بنت جملہ

امداد رفڈ

وضع کیے

۸۶۳

نقش اس طرح بنے گا۔ یہ نقش اول ہے جو مطلوب کے گھر میں لے گا۔

A	B	C	D
۸۶۳	۲	۷	۱۲
۳	۸۶۷	۹	۶
۱۰	۵	۳	۸۶۶

نیسر بنت جملہ

سلیمان بن زرینہ

امداد رفڈ

وضع کیے۔

۸۶۴

۸۶۵

۸۶۶

نقش اس طرح بنے گا۔

گویا اگر قرآن میں اکٹا کر طالب کے کل الا ارثان اور اس کا معاشر بہت سادا تر دیکھ سکے۔ اس کے بعد اگر طالب کے کل الا ارثان اور اس کا معاشر بہت سادا تر دیکھ سکے۔ اس کے بعد اگر طالب کے کل الا ارثان اس کے بعد نہ کریں۔ تو سچے ہاتھ سے ہاتھ نہ کریں۔ اس کے بعد اگر طالب کے کل الا ارثان اس کے بعد نہ کریں۔ تو سچے ہاتھ سے ہاتھ نہ کریں۔ پس اس کے بعد اگر طالب کے کل الا ارثان اس کے بعد نہ کریں۔ تو سچے ہاتھ سے ہاتھ نہ کریں۔ اس کے بعد اگر طالب کے کل الا ارثان اس کے بعد نہ کریں۔ تو سچے ہاتھ سے ہاتھ نہ کریں۔

شہادت ہے۔

۲۶۳	۲۴۹	۲۴۶	۲۵۵
۲۴۸	۲۵۶	۲۶۲	۲۶۷
۲۵۷	۳۰۱	۲۹۳	۲۶۱
۲۹۵	۲۶۰	۲۵۸	۳۰۰

اس نقش کو شرف زیرہ، ہرق مشتری میں ورنہ سا سمجھ زیرہ بیسا سا جمع مشتری میں لکھا جائے۔ ہرق زیرہ بیس جوت میں ۲۷ درجے ہے اور شرف مشتری برلن سلطان میں ۱۵ ادر جوتے ہے۔ اونچ زیرہ اور اونچ مشتری میں بھی یہ نقش کا رآمد ثابت ہو گا۔ اور اگر اس نقش کو جمعرات کے دن پہلی ساعت میں مردنے والوں میں اور بعد کے دن پہلی ساعت میں تیار کریں۔ بشرطیکہ پام عقرب میں نہ ہو تب ہی یہ نقش بے صد صورث ثابت ہو گا۔

نقش تیار کرنے کے بعد یہ آیت یعْبُّوْهُنَمْ كَحْيَ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَمْتُوا أَشْدَّ حَنَالَةَ

حرف آیاتی تعداد کے برابر پڑھ کر نقش پر دم کروئے اور طالب اپنے ہاتھ میں باندھ لے۔

اس آیت کے کل اعداد ۳۲ ہیں۔

۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
ک	۹۱	۹۱	۹۱
۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹
۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸
۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷
۱۱۶	۱۱۶	۱۱۶	۱۱۶
۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵
۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴
۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳
۱۱۲	۱۱۲	۱۱۲	۱۱۲
۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱
۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰

۱۸۵ مطلوب کو اپنی طرف را قب کرنے کے لیے نصف شب کے بعد کسی بھی دن عروج باہمیں ہر وقت رکعت کی نیت سے چور کعات نماز ادا کرے۔ اور ہر ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد چار سو پیاس مرتب خستنا اللہ وَنَعْمَ الْوَكِيل پڑھنے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس آیت کو تو سو بیچال مرتب پڑھنے کے دو ران طالب یہ تصور رکھے گویا کہ وہ مطلوب کو پکڑ کر اپنی طرف کھینٹ رہا ہے۔ ب

اس کو رحمت آفتاب میں شان کو مندر پر لکھیں اور چوبے کے نیچے فون کریں اور اس کو آگ میں

جلا کیں۔ مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہو گا۔
نقش یہ ہے۔

نہیں۔

۱۱۹ ۱۸۲ ۱۱۹ ی ص ۶۱۸۱۸۱ و ۷۱۸۱۸۸ ۱۱۸۱۸۸

فلاں بن فلاں علیٰ حب فلاں بن فلاں

۲۱۹ نہیں۔ نقش محبت کے بارے میں اگر کوئی شخص کسی سے محبت رکھتا ہو تو یکشندہ یا سرشنیدہ یا پیغمبر کے
بن اس نقش کو لکھ کر خوشبودار رونگ بن جس روشن کریں۔ چرا غ کارخ خانہ مطلوب کی طرف ہوا شاء اللہ معموق
ہاضر ہو گا اور اطاعت کرے گا۔ صورت فتنید یہ ہے۔

مسجد	سلح	هو	سلح
سمع	بلاء	سلح	هو
اسلح	سلح	سلح	طلسم

۲۲۰ یہ علامت محبت کے لیے معموق کے پہنچنے ہوئے پرانے کپڑے پر لکھیں اور کورے چرا غ میں تکوں
کامیل ڈال کر فتنید روشن کرے۔ ضرور معموق حاضر ہو گا۔ نقش یہ ہے۔

فلاں بن فلاں علیٰ حب فلاں ابن فلاں یا بن فلاں

۹۱ ۱۱۷ ۹۱ مسا ۷۹۱ ۱۱۱

۵۱۸۹۱۹۲۳ ۱۱۷ ۹۱۱۲۹۱

۵۷ ۹۱ ۱۱۷ ۹۱

احب فلاں بن فلاں

۲۲۱ اس نقش کو چرا غ پر لکھ کر اس میں رونگ خوشبودار بھریں۔ فتنید کامندہ پر لکھ کر بنا کیں اور چرا غ کارخ
خانہ مطلوب کی طرف ہوا اور جس خانہ میں طالب کاتا ہوا سے یوں لکھیں کٹلیٰ حب فلاں ابن فلاں۔
فرمانبردار ہو جائیگا کسی دوسرے کے پاس نہ جائے گا۔ عامل مذکور ہی کے عشق میں دیوانہ رہے گا۔

۲۵۱۷ ۱۸۵۰۰ ۲۷۲۲ ط ،

میں ۹۱۰۸ ۶ او سہ ۶ ن

۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵

احب فلاں بن فلاںعلیٰ حب فلاں بن فلاں


۲۲۱ کورے چرا غ پر تین بار یہ نقش لکھیں اور رونگ اور خوشبوڈاں کر روشن کریں یا اس نقش کو
کامندہ پر لکھ کر فتنید بنا لیں اور چرا غ میں گائے کا گھی یا کوئی اور خوشبوڈاں ارتیل ڈال کر روشن کریں۔ انشاء اللہ
مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہو گا۔
نقش یہ ہے۔

۶۱ ۱۹ ۶۱ ۱۱ ۶۱

فلاں ابن فلاں علیٰ حب فلاں ۱. بن فلاں یا قرار شود بحق یا بدروج

۲۲۲ اتوار کی رات کو سات عدد یہ طسم مشک وزعفران و گلاب سے اور ساعت مشتری میں لکھیں ۱۰
ساعت آفتاب میں فتنید بنا کر رونگ خوشبوڈاں میں جلا کیں اگر محبوب پاس آ جائے تو اس سے بات نہ کریں۔ بڑا
فرمانبردار ہو جائیگا کسی دوسرے کے پاس نہ جائے گا۔ عامل مذکور ہی کے عشق میں دیوانہ رہے گا۔

نیشن یہ ہے۔



و ॥ ۱۲ ॥ ۱۳ ॥ ۱۴ ॥ ۱۵ ॥ ۱۶ ॥ میتے

۲۲۷ اس احمد کو کاغذ پر لکھ کر فتیلہ بنائیں اور کوئے چراغ میں روشن کریں۔ چراغ کا رخ خانہ مطلوب کی رنہ مطلوب بے قرار ہو گا وہ اسم یہ ہے۔

۱۸ ॥ ۱۹ ॥ ۲۰ ॥ ۲۱ ॥ ۲۲ ॥ ط ط و م

۲۲۸ مطلوب کی محبت اور اسے مطیع کرنے کے لیے حثیث زہرہ و مشتری میں اول اس کو ہر دن کی کھال پر پندرہ کے دن مشتری کی پہلی ساعت میں لکھیں اور اس کھال کو پاک کپڑے میں پیٹ کر سر میں رکھیں اور دب کے آگے جا کر سات مرتبہ پڑھیں۔ نیشن یہ ہے۔

۷۸۲

۷۵۲۸	۷۵۲۱	۷۵۲۳	۷۵۲۱
۷۵۲۳	۷۵۲۲	۷۵۲۷	۷۵۲۲
۷۵۲۲	۷۵۲۱	۷۵۲۹	۷۵۲۱
۷۵۲۰	۷۵۲۵	۷۵۲۲	۷۵۲۵

میہظلا نبل

۲۲۹ مطلوب کو محبت سے بے قرار کرنے کے لیے شرف آفتاب میں سونے کی لوح تیار کریں اور اس پر نیشن کندہ کریں۔ اپنا اور اس کا ہم لکھ کر آگ میں جلانیں انشاء اللہ مطلوب حاضر ہو گا، لوح کو بندبازوں میں باندھیں۔ نیشن یہ ہے۔

۷۸۳

۷۶۳	۷۶۷	۷۸۰	۷۶۷
۷۶۶	۷۶۸	۷۶۳	۷۶۸
۷۶۹	۷۶۲	۷۶۵	۷۶۲
۷۶۶	۷۶۱	۷۶۰	۷۶۱

۲۲۲ محبت کے لیے مع چاروں ناموں کے کسی درخت کے پتے پر نیشن لکھ کر آگ کے نیچے فلن کریں۔

میتے

۲۲۳

میتے احباب یا تکفیل بحق یا قیوم یا حی الاه
یا حی الا ہو العی القیوم ۵۵۵

اس طسم کو کاغذ پر مشک و زعفران سے لکھ کر اور کھانے میں ملا کر مطلوب کو کھلانیں اور بطور نیشن لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ انشاء اللہ مطلوب مطیع و مختر ہو گا طسم یہ ہے۔

و ॥ ۱۱ ۵ ॥ ۱۱ ۹ ॥ ۱۱ ۰ ॥ ۱۱ ۶ ॥ ۱۱ ۹ ॥ ۱۱ ۵ ॥

راج و دم ॥ ۱۱ ۹ ॥ ۱۱ ۶ ॥ ۱۱ ۹ ॥

۲۲۳ اس طسم کو کپڑے پر لکھ کر اور فتیلہ بنانا کر چراغ میں جلانیں مطلوب بے قرار ہو گا طسم یہ ہے۔

نف ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۳ ۱۱۱۹

فلان بن فلان علی حب فلان بن فلان

۲۲۹ اگر کسی کو اپنے عشق میں جاتا کرنا ہوتا تھوڑے کا ایسا فعل لا سیں جس میں چھ سو رائج ہوں اور اس پر مطلوب اور اس کی ماں کا نام اور یقش لکھیں اور آگ میں دفن کر دیں لیکن آگ میں وہ بیٹھ فعل گرم رہے۔ مقصود حاصل ہو گا وہ یقش یہ ہے۔ (یقش غیر اصولی ہے لیکن مفید ہے)

۲۲۱ ڈیل کا آتش کامل طہارت کے ساتھ ساعت سمیہ میں لکھ کر بہان کی دھونی دے کر بڑو ہے
تین تین ہو گی اور تمام حکومات میں عزت اور وفات بڑھے گی۔ یقش یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۱۴۸	۲۱۹۱	۲۱۹۹	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۲۱۹۳	۲۱۹۵	۲۱۹۷	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۲۱۹۵	۲۱۹۹	۲۱۹۲	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
			بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۲۲ اس تقویہ مبارک کو جو ہر کام کے لیے محراب ہے اور تمہایت ہی فائدہ یقش ہے۔ محبت کے لیے مطلوب کا تصور کر کے تکھیں اور انہار کے درخت پر باندھیں انشاء اللہ محبت پیدا ہو گی اور اس کو سراہانے رکھنا بھی نہ ہے یقش شریف ملاحظہ ہو۔

۷۸۶

عَلَى	وَ	رَبِّكَ							
وَ	رَبِّكَ								
رَبِّكَ									
رَبِّكَ									
رَبِّكَ									
رَبِّكَ									
رَبِّكَ									
رَبِّكَ									
رَبِّكَ									
رَبِّكَ									

مکور ہالا یقش نہایت عظیم اور بہت زد و اثر ہے۔

۳	۱۸	۳
۱۴		۲۰۰۱۰۹۰۶
۸۰۱۰۹۳۰	۲۰۰۱۰۹۰۳	۷
۳	۸	۱۰۲
		۲۰۰
۸	۱۱۹	۶
۱۰۳۱۰۰		۲۰۰۱۲
۲۰۰		۱۰

۲۳۰ مطلوب کی محبت بڑھانے کے لیے زبرہ مشتری کی ستیث میں ہانے کی ایک لوچ مرلح بائیں اور اسی پر یقش کر دیں۔ آیت کریمہ **يَحْبُّونَهُمْ كَخَبِّ اللَّهِ وَالذِّينَ أَهْنُوا أَهْدُ حَبَّ اللَّهِ** کے عدد جب کفر نجوس سے خالی ہونا کا یہ نیز اپنے اور اپنی ماں، محبوب اور اس کی ماں کے نام کے بعد بھی نکالیں۔ اور آیت کریمہ کے اعداد میں ملا کر تکمیر کر دیں اور صدر موخر کو یقش مرلح کے چاروں طرف لکھیں اور روغن گاؤ شہد میں فتنیہ بنا کر جلا کیس مطلوب حاضر ہو گا اور جو یقش لوچ پر کر دیں کیا جائے اس لوچ کو دانے بازی پاندھیں۔ یقش یہ ہے۔

۲۲۷۲	۲۲۷۵	۲۲۷۸	۲۲۷۵
۲۲۷۷	۲۳۶۶	۲۳۷۱	۲۳۷۶
۲۳۷۷	۲۳۸۰	۲۳۷۲	۲۳۷۰
۲۳۷۳	۲۳۶۹	۲۳۷۸	۲۳۷۹

نقشِ کلر شریف جو تمام نقشوں سے بڑا گردے اور خواص اس کے ہر کامے ایک ایک جس محبت کے لئے بھی بارہا کا محرب ہے اس کو تین روز میں اور ہر روز مطلوب کو پانیں۔ محبت ہوگی اور کلی فائدہ ہو گی محبوب دیوانہ و ارفیقت ہو گا اس عجیب اکرشست۔ نقش یہ ہے۔

دلم ۵ ۵


ولہ د د

ایک فلاں ابن فلاں

۲۲۵ یہ نقشِ محبت کے لئے اور مخزن کرنے کے لیے بے اس کو لکھ کر کسی کوزہ میں رکھیں اور اس پر کسی قدر ترازِ دین اور نہ کوڑہ کوزہ آٹے کے نیچے فلن کر دیں اس طرح کہ آٹے کی گرمی نقشِ مذکورہ تک پہنچتی رہے ایسا نہ مطلوب بے قرار ہو گا۔ نقش یہ ہے۔

۳۷۲	۳۷۵	۳۷۹	۳۶۵
۳۷۸	۳۶۶	۳۷۱	۳۷۶
۳۶۷	۳۸۱	۳۷۳	۳۷۰
۳۷۳	۳۶۹	۳۶۸	۳۸۰

۲۲۶ اس نقشِ شریف کو لکھ کر جو خدا کی ساتھ ہاندھیں محبت کے لیے بے نظر ہے پا یہے کہ جانے کو کاتھے رہیں نقش یہ ہے۔



فلاں ابن فلاں ب قلاں ابن فلاں

۲۲۷ اس نقشِ کو لکھ کر کسی بھاری برتن کے نیچے دباو دیں محرب ہے محبت کے لیے بے نظر ہے۔

الله	الا	اله	لا
محمد	الله	الا	اله
رسول	محمد	الله	لا
الله	رسول	محمد	الله

یہ بھی وہی خاصیت رکھتا ہے اور کلر شریف کے اعداد ادا کا ہے اس کو محبت کے لیے مذکورہ ترکیب سے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ نقش یہ ہے۔

جے ۱۱۴	۷۸۶	جے ۱۱۵
۱۵۲	۱۵۷	۱۶۰
۱۵۹	۱۳۸	۱۵۳
۱۳۹	۱۶۲	۱۵۵
۱۵۶	۱۵	۱۵۰
عمر رائیں		۱۶۱
اسرافیل		

۲۲۸ یہ علامت جو درجن ذیل ہے محبت کے لیے مطلوب کے پرانے کپڑے پر اسی طرح لکھنے اور نئے چار غمیں اس کا تیل ڈال کر قریبہ ہا کر جائے۔ مطلوب ضرور حاضر ہو گا۔

۲۵۲

یہ عالم محبوب کے قلب پر گہرا اثر داتا ہے اور اس کو عمل میں لانے سے محبوب بٹھ کے لیے پر فرار ہو جاتا ہے اور حیران و پریشان طالب کے قدموں پر آگزگز جاتا ہے اور ہر حکم مانے کو تیار رہتا ہے۔

طالب کو پا بننے کے محبوب کا استعمال کپڑا حاصل کرے (جو کہ پہننا ہوا محبوب کا ہو) اس کے قبضے کر کے مندرجہ ذیل عالم محبوب کو کالی تازہ سیاہی سے ان پر لکھ۔ تین فتحیتیار کرے اور رات کے وقت چار غمیں ہمراہ رہ غم پیشیل روشن کرے اور رغم چراغ کا محبوب کے مکان کی طرف رکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تین روز کا بڑا عمل تیر بہدف ثابت ہو گا اور محبوب طالب کے قدموں پر آگزگز گا۔ یہ خیال رہے کہ چراغ ہر روز نیا ہو۔

علم یہ ہے۔

۱۱۹ م ۱ ح ۱۰ ل ۱۰ ح ماہ دعے

۱۱۸ م ۱ ح ۱۱ د ۱۰ د من ص

۱۱۷ ح ۱۱ اس ۱ ح ۱۰ دام ۱ ب

در د و خ ۱۱ عات ع ،

۲۵۳ حسب ذیل انش لکھے اور پانی یا شربت میں گھول کر پلا دے انشاء اللہ طرفین میں محبت ہو جائی۔ یا حثان یا منان یا دیان بحق یا دودوڑ۔ عمل سات دن مسلسل کرنا چاہیے تا نفع نہ ہو ورنہ از سر فوٹروں کرے۔

۲۵۴ اگر کسی شخص کا محبوب باوجود ہر ممکن کوششوں کے بھی قابو میں نہیں آ سکا ہو۔ اور طالب پریشان ہو جائے تو اس اسم عالم کے ذریعہ تین کامیابی ہوگی اور صرف تین روز کے اندر اندر محبوب مطلع و فرمائہ رہدار ہو جائے۔

بشرطیکہ پہ نیست ناچائز اور اعتقاد صدق اس محل کو پڑھے اس عالم یہ ہے۔ یا دودوڑ۔

طريقہ اس کا یہ ہے کہ پوری پا کیزیگی کے ساتھ ایک پیالہ شریعت کا جس میں کبودہ بھاگ بھیجی ہو تیار کریں اور برداشت بوقت صحر قبدر و بیضیس اور آنکھیں بند کر کے محبوب کا تصور اس طرح کرنے کر جیسے محبوب رہ میں بیس ہے یہ گمان نہ ہو سکے کہ غالب ہے تب ایک ہزار چار مرتبہ اس اسم عالم کو روپاں پڑھیں اور اول و آخر ایکس مرتبہ درود شریف پڑھیں بعدہ اس شریعت کو مطلوب خود پلی جائے۔ اس عالم درود شریف پڑھنے کے بعد اس شربت پر دم کر دیں تب جیس۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی روز محبوب عاصم خدمت

۲۵۴ حکیم بجا ہے کہ اس اس عالم کا عمل اس وقت کریں جب کسی دوسرے عملیات نے اثر دیا ہے۔

۲۵۵ بخوبی چاہئے کہ فلاں شخص مجھ سے محبت کرے تو اس لفظ کو لکھ کر آگ میں ڈالے۔ محبت بہت زیادہ ہی کاں کے بغیر ایک پل بھی قرار دئے لفظ یہ ہے۔

لئے ، ط ط ۵ ۱۱ و ۱۱ ۹ ص

۲۵۶ اس آیت کو آیت محبت کہتے ہیں، چودہ مرتبہ شب جمع کو پڑھئے اور شیرینی یا سیوہ یا جوچیز کو مطلوب اپنے ہوں پر دم کرے اور کھلاؤے وہ عاشق ہو جائے گا، آیت مبارک یہ ہے۔

بِحَثْوَنَهُمْ كَحْبُ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ۔

۲۵۷ اس مندرجہ ذیل محبت کے لیے عجیب الاثر ثابت ہوا ہے اور آسان بھی ہے۔ اس کے ذریعے کیا ذریعہ پسند ہوں تھے ہموم ہو جاتا ہے۔ اکثر بزرگان کرام کا آزمایا ہوا ہے۔ بہت حیرت انگیز عمل ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي يَنْهَا مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لَا حَوْلَ
لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

ترکیب اس کی یہ ہے کہ ذکر کو رہ آیت مبارک کو برداشت اور شروع پا دیں کسی قسم کی بھی شیرینی پر جس انجوب پسند کرتا ہو اور کھائے ایک سو ایک بار آیت مبارک کو پڑھ کر دم کریں اور اپنے محبوب کو کھلاؤیں۔ اس آیت مبارکی کی برکت سے محبوب طالب کی محبت میں بے قرار ہو کر طالب کے قدموں پر آگزگز گا۔ اور قبیل فرمیدا ہے کہ اس محل کے اول و آخر درود شریف سات سات مرتبہ ضرور پڑھیں اور تا چائز محبت کے لیے اور اس پڑھیں درست بھی یعنی قائمے کے نقصان ہو گا۔

۲۵۸ محبوب کی محبت کے واسطے اوبے کی سات کیسیں سات انگل کے برداشت کر جیکیل پر سات مرتبہ گزہ بیگن ہے۔ بہت محبت پڑھ کر دم کرے اور ان کیلوں کو آگ میں ڈال دے اور اس قدر آجی دفعے کیسیں اسیں بوجوئیں جس وقت کیسیں سرخ ہوں گی مطلوب دیوانہ حاضر ہو گا۔

اگر کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا مقصود ہوتا ایک سعید باندھی یعنی دل اچھیں اور ان دونوں قوش سے مندرجہ ذیل تین طریقے عمل میں لائیں وہ قوش یہ ہیں۔

(۱) (۲)

(۳)	۱۳	۱۱	۱۵	۹	۷	۱
	۱۲	۱۷	۱۸	۱۳	۲	۸
					۲	۳
	۲۰	۲۲	۲۳	۱۹	۲۱	۲۶

قوش نمبر ایک کو محبوب کے دروازے کے قریب گاڑو۔

قوش نمبر دو کو پانی سے دھو کر چاہو۔

قوش نمبر تین کو تھویڈ کو اپنی گردون میں ڈال لو۔

جب یہ طریقے عمل میں آجائیں جب اس وقت اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جاؤ اور آزماؤ کر اب کس طرح قوش آتا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آپ نمایاں فرق محسوس کریں گے یعنی محبوب کے دل میں آپ کی عشق پیدا ہو جائے گا۔

۲۶۰ اگر شب آرینے میں اکیس بار اوپر شیرینی کے پڑھ کر مطلوب کو کھلادے تو دل و جان سے عاشق، قربان ہو جائے گا۔

اگر سیخ کی رات کو پھول کے اوپر پچاس مرتبہ پڑھ کر محبوب کو سخا دے مثل بیبل کے شید پاوے۔ اگر اتوار کی رات کو اپر سات دان چیپل کر دے کے سات مرجبہ پڑھ کر آگ میں ڈالے۔ پروانے کی طرح محبوب پر جان دیوے۔

اگر لوگ کے اوپر چھیس مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اپنے محبوب کو کھلادے جاں نثار اپنائادے۔ اگر پانی پر چالیس مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اپنامند اس پانی سے دھو کر اپنے محبوب کے پاس چلنے تو اس کو اپناعاشق بناؤ۔

اگر سرمدہ پر اس کو چھ مرتبہ پڑھ کر آنکھ میں لگادے محبوب کے رو رو جاؤ۔ تو اس کو اپناغلاماً پاوے۔ اگر موم کے اوپر غلوہ بنائیں اور اس موم کو آگ میں ڈالے مثل موم کے محبوب

اگر کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا مقصود ہوتا ایک سعید باندھی یعنی دل اچھیں اور ان دونوں قوش سے مندرجہ ذیل تین طریقے عمل میں لائیں وہ قوش یہ ہیں۔

اگر کسی کے اوپر ایک بڑا مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کرے اور یہ سکھی کی نسبت اپنے سر میں پھرائے تو اس کا، اپنے جو جائے گا۔

وہ مضمیں ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم بما سخر لك من السهوت والارض سخر لى فلا تالمي

لنى فذله بى اللهم ارحم وقب محلتى على اهان فى قلى وجعله
على رزقنا محببا على المحبوب حبا، كان حبا بحق يا الله يا رب رحمن
يا رب رحمة بمحبتك يا رب رحيم الراحمين۔

۲۶۱ قوش بیٹ کے دامنے سیب و غریب اثر رکھتا ہے۔ جو عاشق، بیویں اور بزرگوں ان کے
بیویوں سرت ہے۔ اور جو لوگ بد اعتقاد ہیں اور تھویڈ ہیں پر جن کا اعتقاد نہیں ان کو یہ دکھاتا ہے کہ
لئے کیا بر تی اثرات ہوتے ہیں اور جو با تمس نہ ممکن ہیں ان کو ممکن کر دکھاتے ہیں۔ جو شخص ہر شخص
اٹھ کے باوجو دن کام رہا اس کو چاہیے کہ اس قوش کو استعمال کرے انتقام اندیشیں کامیابی ہوگی۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمع کے دن سچر پکا کر حضرت سلیمان کے نام پر قاتو دلائے اور قاتو
کا جو اسی روز رات کو دو بڑا مرتبہ حضرت سلیمان کا نام لجئے اور ہر مرتبہ آخر میں مدی کئے جائیے
لگی اسیمان مدی یا سلیمان مدی دو روز تک اسی طرح دلخیش پڑھتے رہو اور جو روز اس قوش مضمیر
ہو کرستہ رہو۔

جب دمت فتح ہو جائے تو اس قوش کو اپنے دل کے قریب تھویڈ بنا کر انکا لیں اور محبوب کے
ہنکار ہاں کیں محبوب دیکھتے ہی عاشق ہو جائے گا اور خدمت کرے گا چاہیے کیا بھی سمجھ دل کیوں نہ
کوئی غرب ہے، تھویڈ مندرجہ ذیل ہے۔

طالوت	الجن	ياروت	لا هوت
طالوت	الله اکبر	الله اکبر	باطوت
بلقیس	الله اکبر	الله اکبر	نالوت
صفورہ	ممدودت	هد ھد	جالوت

ریں ایک کوئی جس کو بھی کھلادیں وہ فریفت ہو کر پیچھے پیچھے پھرنے لگے اور تمام عمر تپ کا تابعہ اور بے گاہ
کیا رز جان ہو گا۔

۲۶۱ مطیع فرماتے دار بنا نے کے لیے یہ عمل بہت بحرب سے محبوب کیماں سنگدل کیون دہ آنے فتنے
جاتا ہے اور طالب کا دم بھرنے لگتا ہے جو شخص باعتقاد صادق اور جائز نیت سے اس عمل کو زمیں کے گاہو
مزبور ہے اور طالب ہو گا عمل درج ذیل ہے۔

ما سَكَانُ مُحَمَّدٌ أَبَا أَخْدُونْ رَجَالُكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ
النَّبِيِّنَ بِوْحِمِنَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

۲۶۲ ترکیب اس کی یہ ہے کہ آیت شریف مندرجہ بالا کو چندی جعراٹ کے دن سات مرتبہ اس کو پڑھ
کر کی تم کی شیرینی پر یا چنیلی کے پھولوں پر دم کرے۔ اول و آخر دو دشیریف پانچ پانچ مرتبہ ضرور پڑھے۔
اگر اسی دعا کو بطور تعویذ بده کے روز عروج ماہ (چاند) میں لکھ کر لوپاں کی دھونی دیکر موم جامد کرے
داہنے پاز دیا گلے میں پائی ہے تو معزز مکرم ہو گا۔ بہت عزت ہو گی۔

۲۶۳ کہ بہت صادق اور بہت جائز یہ عمل پڑھا گیا ہو۔ انشاء اللہ کا میا بی حاصل ہو گی۔

۲۶۴ اگر کسی عورت کا شوہر اس سے تاریخ ہو کر چلا گیا ہو یا اس سے لڑتا جھختا ہو۔ خالق کافی بن چکے
ہیں اور وہ اس سے بحمد نعمت کرنے لگا ہو تو اس وقت چاہیے کہ ایک پیپل کے پتے پر زعفران سے سیدھی
ملن سورۃ اُنْ اغْطِيْنَكَ الْكَوْثَرِ آخِرِکَ لکھے اور دوسرے طرف نتوش جو کہ ذیل میں درج ہے تحریر
کے قلم کے پیچے طالب اور مطلوب کے نام مان کے ناموں کے ساتھ تحریر کر دے۔ پھر اس پتے کو کنوں
من وال دے جس کا پایا مطلوب پیتا ہو، انشاء اللہ فوراً کامیابی ہو گی چاہے مطلوب کتنا ہی سنگدل کیوں نہ ہو
اور اطالب کے ناموں پر آگرے گا۔ نقش معظم یہ ہے۔

۲۱	۲۲	۲۷	۱۳
۲۲	۱۵	۲۰	۲۵
۱۶	۲۹	۲۲	۱۹
۲۳	۱۸	۱۷	۲۸

فلان بن فلان ب محبت فلان گرفتار شود

۲۶۵ جائز محبت اور تفسیر خلائق کے لیے یہ عمل بہت بحرب ہے با رہا کا آزمایا ہوا ہے اس کا طریقہ یہ ہے
کہ چندی جعراٹ کو غسل کرے بعدہ، پا کیزہ میاس پہنے اور عطر میں اس کے بعد چالیس دن تک ہر روز
مندرجہ ذیل دعا بعد نماز عشاء پڑھا کرے پھر جس کی کوکھانے کے لیے کوئی شے دی جائے اس پر اسی لیس پار
یہ دعا پڑھے اور کھلادے وہ کھاتے ہی ہدم ہو جائے گا۔
اگر اسی دعا کو بطور تعویذ بده کے روز عروج ماہ (چاند) میں لکھ کر لوپاں کی دھونی دیکر موم جامد کرے
داہنے پاز دیا گلے میں پائی ہے تو معزز مکرم ہو گا۔ بہت عزت ہو گی۔

۲۶۶ اگر کسی محبت میں گردیدہ بنا ہو تو آجْمَعِينَ أَفْضَلُ حَاجَتِيَ کے بعد تام مطلوب
اس کی ماں کے تام لکھ کر علی ہب لکھے اور پھر اپنا نام اور اپنی ماں کا نام لکھے۔ اس طریقے سے درود شریف جو
اس کے پیت مکر مطلوب ایک ہزار دو مرتبہ کے۔ قَدْ شَغَفَهَا حَبَّاً اور آخِرِشِ میں کے۔
اللَّهُمَّ سَخْرُلَى فَلَانَ بْنَ فَلَانَ۔

۲۶۷ تفسیر خلائق کے لیے بعد نماز جنگانہ کے پانچ سو مرتبہ پڑھا کرے ساری تلوق آپ کی جانب مل
ہو گی وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ وَلَادَى يَا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ كُلِّ

ظاہر۔

۲۶۸ محبت کے لیے یہ ٹلسی بہت آسان اور زود اثر ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک چیز یا جو کہ مدن
میں گھونٹے ہنا کر رہتی ہے، پکوئیں اور سُمَ اللَّهُ كَبَرَ کے ذبح کریں اس کا پیٹ چاک کر کے تمام آلاش باہ
ٹال لیں۔ پھر اس آلاش میں ایک ماٹھ پارہ شامل کر کے اور چند قطرے اپنے خون کے بھی شامل کریں
جا میں اس کے بعد اسی چیز کے پیٹ میں آلاش مذکورہ بھروسیں اس کے بعد اسے کسی محفوظ جگہ پر دن کر

نوٹ:- فلاں بن فلاں کی جگہ مطلوب اور اس کی ماں کاتام لکھے اور بعد میں طالب اپنا اور اپنی ماں
کاتام لکھے۔ نقش لکھتے وقت پاک پکڑے اور باوضو ہوتا بہت ضروری ہے۔

۲۶۷ نوچندی جمعرات کو جنگل میں جائے اور ایک بینا پکڑ کر لائے اور اس کی چوپانی کے بال کاٹ کر
پاریک ویس لیں اور ان کو کسی مخلوق میں ملا کر اپنے مطلوب کو کھلانے اس کے کھانے ہی محظوظ آپ کی خدمت
میں حاضر ہو جائے گا۔ اور تمام عمر حاضر خدمت رہے گا بھی جدائی نہ ہوگی، یہ طسم بہت آسان اور بے حد زد و دلہ
ہے۔ پارہ بنا کا آزمایا ہوا بحرب ہے۔

۲۶۸ جو شخص کسی کو اپنادوست بنا ناچاہے یا محظوظ کو اپنا عاشق بنا ناچاہے تو اس نقش کو جو کو درج میں درج
ہے کام میں لا سیں۔ انشاء اللہ محظوظ کے ویچھے ویچھے دیوانہ وار پھرے گا اور کیسا ہی دشمن کیوں نہ ہو دوست ہو
جائے گا۔ نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحيم

۱۷ - ۱۲ حب ۳۷ - ۳۷ - ۲۵ ن

فلاں بن فلاں مغلی حب فلاں بن فلاں

طریق یہ ہے کہ بروز جمعہ غسل کرنے کے بعد اچھی پوشک پہنس اور عطر گاب لگائیں۔ بعد میلانہ
جمعہ ادا کریں اور یہ نقش سفید کاغذ پر سیاہ سے لکھیں اور ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ انشاء اللہ جب آپ
محظوظ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو دیکھے گا آپ پر دل وجہ سے عاشق و فریخت ہو جائے گا اور ہر چورا
چشم بیلا جائے گا۔

دوسرے افادہ اس نقش کا یہ بھی ہے کہ آپ کا جانی دشمن جو کسی بھی تدبیر سے آپ کے موافق نہ ہو
بھی آپ کا مشق دوست بن جائے گا۔

۲۶۹ محظوظ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ نقش جو کو درج ذیل کیا جا رہا ہے بر قی نقش کجا ہے اس
کے اوصاف تو اتنے چیز جو اگر لکھے جائیں تو کافی جگہ درکار ہے اور اس کے مختصر جھوٹے میں اتنی جگہ نہیں بدلہ
چاہے۔ بہر حال اتنا لکھوڑ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ طسم کو استعمال کرنے سے مقصد دلی فوراً رہ آتا ہے اور فی
خیز کا میری حاصل ہوتی ہے ان تمام خوبیوں کے باوجود یہ خوبی کتنی اچھی ہے کہ ضرورت سے زیادہ آسان گی
بھی وہ سے ہر ایک شخص پر اسی اس طسم سے تعجب خیز کا میری حاصل کر سکتا ہے۔

طسم یہ ہے۔
|| ۱۵ || ۲۱ || ۸۱ || ۸۱ || ۸۸ || ۸۸ || ۸۸
او ۳ و ط و || ۸۸ || ۸۸
فلاں بن فلاں الساعہ الساعہ الساعہ
نہ کوہ هب الاقش کو آفتاب نکلتے وقت طالب اپنے ہاتھ پر اس کو لکھتے اپنے محظوظ کے سامنے جا کر اسی
لئے سلام کرے جس پر طسم لکھا ہوا ہو۔

نوٹ:- فلاں بن فلاں کی جگہ محظوظ اور اس کی ماں کاتام لکھے۔
۲۷۰ سورۃ یسین سے یہ آیت بزرگ ایک سو مرتبہ شیرینی پر یکشنبہ کے دم کرے اور مطلوب کو کھانے کو
ایس اُن اور دیوانہ ہو جائے گا آیت یہ ہے۔

سبحانَ الَّذِيْ يَنْهَا مُلْكُوْتُ كُلَّ شَيْئٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَ لَا حُوْلَ
وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

۲۷۱ واسطے حب کے پالیں مرتبہ مخلائی پر دم کرے اور مطلوب کو کھلانے باشک فرمانبردار ہو گا اور دو
بیسے۔ عزمت علیکم یا معاشر الارواح و صاحب الشژو و الوسوس
الحناس جنود ابلیس خاتم سليمان بن داؤد علیہ السلام و بحق
ہاروت و ماروت ہو الا ذکر للعالمین فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن
فلاں داتھا ابدأ۔

مکر لازم ہے کہ پہنچنے کو ڈے اس طریقے سے ڈے کر دوڑیکشنبہ سے شروع کرے اور گیارہ مرتبہ تکھے
کردہ بیسیں ڈالے آئے میں گولی ہنا کر پس اس طرح سات دوڑیکش کرے اگر مصشویت ہے اور کوئی پر یہ میکھ اور حاضر
ہو گو۔

۲۷۲ جو کوئی شخص کسی کو ہے شن اور دیوانہ بنا نہ پڑے بروز جمعہ عروج ماؤں میں اس حمل کو شروع کرے جو مردہ
پالسکی دار پالیں روز تک پڑھے لازماً اس مطلوب کا دھیان رکھے گویا رہے سو جو ہے یہ میں وہی
ہے جس کی دبے سے ہر ایک شخص پر اسی اس طسم سے تعجب خیز کا میری حاصل کر سکتا ہے۔

جب سریع الائچہ ہے۔ بشرطکہ نیت حرام کی نہ ہو انشاء اللہ بہت چند مظلوم پر حاصل ہو گا اور گوشت وغیرہ سے پر بھر ضروری ہے وہ عمل یہ ہے۔

- بسم الله الرحمن الرحيم اليه بحرمت ميكانيل و حبرانيل و**
- ۲۷۶ اسرافيل و توريت موسى و انجليل عيسى و فرقان محمد سليمان
۲۷۷ سورۃ اخلاص یعنی قل شریف کو اکتا لیں بار بسم اللہ کے ساتھ اول و آخر درود شریف پڑھ کر شیرینی کر
دم کر کے مطلوب کو کھلائیں۔ پڑھتے وقت مطلوب کا تصور دل میں رکھیں انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو گا۔
۲۷۸ جو کوئی چاہے کہ فلاں شخص فلاں شخص کا مطیع ہو۔ سات کیلیں آنکی کہ ہر ایک بقدر اگذشت ہو لے کر
ہر ایک سورۃ نیشن پر نیت محبت پڑھتے اور دم کرے اور کہے کہ سو ختم دل و جاں فلاں بن فلاں اور بجاۓ فلاں
نام مطلوب کا اور بجاۓ بن فلاں کے نام اس کی ماں کا لے اور ان کیلوں و چھٹیں بے میں گمازے اور آنکھیں جلا
دے جب وہ کیلیں گرم ہوں گی مطلوب دیوانہ ہو کر حاضر ہو گا۔
- ۲۷۹ جو کوئی چاہے کہ کسی کو اپنے عشق میں بخدا کرے (اس آیت کو آیت محبت کہتے ہیں) چودہ مرتبہ
بعد کو پڑھتے اور شریق یا مسید ہجوجیز کے مطلوب کو پسند ہو اس پر دم کرے اور جس کو کھلادے وہ پیشک عاشق ہو گا۔
دوسری ترکیب یہ ہے کہ ہر روز چالیس مرتبہ شیرینی یا اور کسی چیز پر دم کر کے کھلادے تو طرح طرح
کے فائدے انجھائے گا وہ آیت یہ ہے۔

يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا الله

- ۲۷۹ محبت کے دوستے بسم الله الرحمن الرحيم سات سو چھایی مرتبہ پڑھ کر پنچ پر دم کر کے جس کو پادے
وہ اس کے عشق میں دیوانہ ہو جاوے۔
- ۲۸۰ محبت کے لیے بے پناہ مل بے سات خوشبودار بھول لے کر ہر بھول پر سات سات مرتبہ یہ آیت
پڑھ کر دم کر کے ولقد فتنا سليمان و القينا على کرسنه جسدا ثم افاب۔ ہر روز
آیت کے آخر میں مطلوب اور طالب کا ہام اس طرح لے اب فلاں بن فلاں علی الحب فلاں بن فلاں یہ
بھول جس نورت یا مرد کو تکھادے وہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔
- ۲۸۱ هل انتی على الانسان حين فلن الدهر لهم يلکن شيئاً ممداً كثروا اما
خلفنا الانسان من نطفة امشاج فلتليه فجعلناه سميقاً مصيراً كذا الله
متسلی فلاں بن فلاں بدمعنیہ فلاں بن فلاں اس آیت شریف کو کاپ اور ہمراہ سے ٹھہرا۔

۲۸۲ دین بخش کے درمیان محبت کرانی مطلوب ہو یاد کیں، انشاء اللہ کمال درج محبت واقع ہو گی اور کسی اس
بخار ہو گا۔

۲۸۳ اگر بیان یوہی میں محبت نہ ہو تو حسب ذیل نقش لکھ کر پانی یا شربت میں بھول دے اور زدن و شورہ
یا زویا جس کی خطہ ہو اس کو پلاٹے۔ گیارہ دن تک یہ عمل کرے اور اگر اس سے پہلے ہی ہاتھوں میں
بیان اور محبت ہو جائے تو عمل ترک کر دے۔

۲۸۴ یا درکھنا چاہیے کہ یہ عمل صرف شادی شدہ زن و شوہر کے لیے ہے بلکہ تاجران کے لیے ہرگز کوئی عمل
نہ ہے۔ نقش تکرم یہ ہے۔

ل ل ل ل ل ل

ه ه ه ه ه ه
مح مح مح مح مح مح

۲۸۵ سورۃ لا یا ف قریش تمام گیارہ مرتبہ پڑھ کر مصری پر دم کر کے مطلوب کو کھلادے انشاء اللہ تعالیٰ
مطلوب محبت کرے گا۔

۲۸۶ اللہم صل علی مُحَمَّدَ بَعْدَ مَعْلُومٍ لَكَ ایک سو چھیس بار پڑھ کر کسی شیرینی یہ
کے مطلوب کو کھلائے محبت پیدا ہو گی۔

۲۸۷ ما کان محمد ابا احمد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم
السین برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اس مبارک آیت کو سرتبہ پڑھ کر بیٹے کے بھول
ملہ شریف یا سخاںی پر دم کرے اور مطلوب کو کھلادے خداوند کریم کو منکور ہو تو طالب اور مطلوب میں محبت
کرتے ہیں انہوں۔

۲۸۸ انا انزَلْتُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ
أَنْ شَفِيرٌ قَرْآنُ الْمُلْكُوكَهُ وَرُوحٌ فِيهَا بِادَنٍ رَبِيعُهُ مِنْ كُلِّ أَنْهَرٍ سَلَمَهُ هُنَى
ضَيْعَ مُطْلَعِ النَّجْوِ

سے کی تردد کرنے سے محبت کرنے کا مرتبہ ہوتا مطلوب کی پیریانی کے کوالی تحریر سے درجے
کے لئے ۲۰۲۳ء سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان بخوبیہ درج محبت کی اور سلسلہ
متسلی فلاں بن فلاں بدمعنیہ فلاں بن فلاں اس آیت شریف کو کاپ اور ہمراہ سے ٹھہرا۔

٢٨٣

تصور کر سات مرتبہ پڑھئے اور نیک پر دم کرتا رہے اور اس نیک کو ہال میں ہو گا۔

ایک بار سورۃ اخلاص دم کرنے کے کھلاونا چاہیے۔

۲۸۷ ۲۸۷ نیک محبوب کو مطیع فرمائیں گے اور محبوب نے کے لیے عمل پے حد صورت ہے۔ کیسا بھی نیک محبوب کو دریافت کیا گی میں موم ہو جاتا ہے اور طالب کا دم بھرنے لگتا ہے جو شخص با عقائد صادق ہو رہا ہے خیزی سے اس عمل کو ہٹھ چڑھو دی کہ میا ب ہو وی گا عمل یہ ہے۔

ماکان محمد ابا احمد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتمه
النبیین برحمتك يا ارحم الراحمین۔

ترکیب اس کی یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت کو نوچندی جمارات کے دن سات مرتبہ پڑھ کر کسی حسم کی پڑھنی پر با پیشی کے پھولوں پر دم کرے۔ اول و آخر پانچ پانچ مرتبہ درود شریف بھی پڑھے بعد وہ یہ دم شدہ پڑھنی محبوب کو کھلا دے اگر پھولوں پر دم کیا ہے تو ان پھولوں کو سخا دے لیں۔ شرط یہ ہے کہ با عقائد صادق ہو رہا ہے اور عمل پڑھ کر میا ب ہو انشاء اللہ کا میا بی حاصل ہو گی۔

۲۸۸ بہت کے لیے اس نقش کو ساعت سعید وقت حید میں لکھ کر پانی میں جھوک رہ میں جھوک کو کسی بھی ذریعہ سے پارے انشاء اللہ تعالیٰ میشوق بے قرار و دیوانہ ہو کر پاس طالب کے برہنے پا آئے گا۔

| لڑکے |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ۱۳ | ۲ | ۹ | ۱۰۱ | ۱۱ | ۶ | ۲ | | | | | |
| . | ۱۱ | ۸ | ۱۵ | ۱۲ | ۵ | ۷ | ۹ | | | | |
| . | ۷ | ۹ | ۹۰ | ۱۱۰ | ۴۰ | ۱۱ | ۷ | | | | |
| ۱ | ۱ | ۵ | ۱۱۱ | ۵۱ | ۶۰ | ۷۷ | ۵۳ | | | | |
| ۱ | | مط | مط | مط | مط | مط | مط | | | | |

نقش کے نیچے نام طالب مطلوب بمعہ میں کے ناموں کے آنحضرتی ہیں۔

۲۸۹ جو شخص کسی سے شادی کا خواستگار ہو اور محبوب یا اس کے والدین ہو تو اس شخص سے شادی کرنے کے لئے تاریخ ہوں بلکہ اس ارادے کی وجہ سے جانی و نہمن بن گئے ہوں تو اس کو چاہیے کہ اس نقش کو اپنے دامن میں باندھ دیجئے اور جو اس سلسلے میں اس کے مقابلہ ہوں ان کے سامنے جائے وہ وحی کر موم ہو جائیں گے اور خوشاب کے خواستگار اس کی شادی اس کی محبوب کے ساتھ کروں گے۔

۲۸۴ **اللہ فَشَّرَ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَغَنَا يَعْنِي** یہ سورۃ شریف شام کے بعد مطلوب کا دل میں تصور کر سات مرتبہ پڑھئے اور نیک پر دم کرتا رہے اور اس نیک کو ہال میں ڈالے انشاء اللہ مطلوب شامل ہو گا۔

۲۸۵ **وَاللَّهُ الْمُسْتَعْنَ عَلَىٰ مَا تَصْفُونَ يَا رَفِيقَ يَا شَفِيقَ نَجْنَىٰ مِنْ كُلِّ**
صیق۔ کسی شخص سے دوستی کرنے کے لیے مذکورہ بالا آیت شریف کو ہر روز میں ہوں کے جو ساتھ ہوئے اور
ایک ہزار مرتبہ پڑھئے اور پھولوں یا شیرینی پر دم کرنے کے اس شخص کو سمجھنے کا کھلانے کے لیے دے دیں۔ مطلوب
اس کے حجم کا فرمائیہ دار ہو جائے گا جو بھبھے ہے۔

۲۸۶ **يَا دَرِكَنَا چَائِيَّةَ كَذَبٍ كَذَبَ كَذَبَ**
یاد رکھنا چاہیے کہ خب کے لیے تصور لازمی ہی نہیں ہے جتنا زیادہ تصور قوی ہو گا اتنا ہی زیادہ قوی اور
ہو گا۔ اصل میں کام دل کی قوت ہی کرتی ہے عمل تو ایک ذرا بعد ہن جاتا ہے خب کے لیے یہ نیابت ہا در چو
بے۔ آزمائیے اور قدرت خداوندی کا تماشہ دیکھئے اس کو نوچندی جمارات سے شروع کیا جائے۔

بعد تمہارے عشاء تہائی میں جہاں شور و غل نہ ہو میں کہ محبوب کا تصور کرے یعنی یہ خیال ہاندھے کہ گویا
میرے سامنے دست ہستہ موجود ہے اور اس کو مقاطب کر کے ۳۶ مرتبہ یہ آیت پڑھئے۔

وَالْقَبْيَثُ غَلِيلُكَ مَحَبَّةُ هَنْتِي وَلَتَضْنَعَ عَلَىٰ خَيْنَيِي اول وَآخِرَ اکیس اکیس مد
درود شریف پڑھے، شروع میں تصور کرتے ہوئے ڈر ادقت ہو گی کہ بار بار ہنچنی تصور آئے گی اور جائے گی کہ
اس سے دل برداشت نہیں ہوتا چاہیے۔ اور بار بار تکلف اور کوشش کے ساتھ محبوب کی تصور کو سامنے رکھنا چاہیے۔
اگر دوران عمل میں تصور کی قوت کام کرتی رہی تو انشاء اللہ ایک ہفتہ کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونے لگیں
گے اسی طرح یورا ایک چد کرتا چاہیے۔ نحیک وقت مقررہ پر پڑھنا چاہیے۔ کسی روز ناختمہ ہو اور دوران عمل میں
انجھے مینختے اور پتھنے پتھنے۔

یا اللہ الودود

يَا مَسْخَرْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَيَا مَسْخَرْ مِنْ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سُخْرَلِي قَلْبَ فَلَانِ بْنِ فَلَانِ كَجَدَ محبوب اور اس کی والدہ یا والدہ کا نام لے یہ میں ہام
کی سات مرتبہ شروع کر دیں۔ بعد تمہارے عشاہ ۵۲۱ مرتبہ اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھئے ایک دن یا
دن تک ایسا ہی کرے۔ اگر کسی کو فوری طور پر مہربان کرنا ہو تو کسی میخفی چیز پر ایک سو ایک بار درود شریف۔

۲۹۴ براۓ محبت یہ نقش بہت ہی کامیاب اور زود اثر ہے۔ اگر طالب مطلوب کو اپنا گردیدہ بنانا چاہے تو اس کو چاہئے کہ اس تھوڑی کوکھ کر اور پانی سے دھو کر مطلوب کو پلاوے۔ انشاء اللہ مطلوب کی محبت میں کھانا، سوٹا، الحنف، بینحتساب کچھ حرام کر کے طالب کی خدمت میں برہنہ پاٹل پائل دیوانہ کے حاضر ہو گا۔ وہ نقش معظم یہ ہے۔

ع ع ع ع ع ع ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب

۲۹۵ واسطے افسوس نی جائیں کہ اگر مرد کرے داہنے ہاتھ میں باند ہے اور اگر عورت چاہے کہ شوہر مطیع رہے باس ہاتھ میں باند ہے اور چاروں نام اس نقش کے نیچے لکھے یعنی عورت کا نام اور اس کی ماں کا نام مرد اپنا نام اور اپنی ماں کا نام یہ چاروں نام خواہ عورت لکھے یا مرد چاروں نام لکھنا ضروری ہے۔ نقش معظم یہ ہے۔

٢٩

روزہ

		لارک ماری ۶۹ میں	ع ع ع
"	کن	ف خ	
خ ن ظ	غاتہ نوری	و س ن	
س ع د ا ن د ا ن	نعت الہجہ حومی	نوح	
ا س ل ب ج ل ا ب ج ل	علیٰ محمد قادر تازہ	میکائیل	
"	کی حسن	ح ل ک ا ب ک ل	
ب ا ع	یاعلیٰ	یاعلیٰ	

۲۹۷ محبوب کو اپنی محبت میں دیوانہ بنانے کا بہت ہی آسان اور سلسل طریقہ درج کیا جا رہا ہے جس سے براۓ الحنف یا بہو چکے ہیں۔ آپ بھی خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے آسان طریقے سے اپنے محبوب پر لذ کریں۔

طریقہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے محبوب کو بیت پر چلنے کا موقع دو یا دھیان رکھو کہ کب محبوب کو بنت پڑنے کا انفاق ہوتا ہے کیونکہ محبوب کے داہنے بیٹر کے نیچے کی خاک درکار ہے جس پر محبوب کے تمام نکاح کی خاک اس طرح انٹھائی جائے کہ داہنے بیٹر کے نشان کو انگلی سے درمیان میں شکاف دے کر انھالو۔ اسی طرح داہنے بیٹر کے سات نشانوں کے درمیان سے شکاف دکھانے اور کسی کتواری لزی کے انداز ہو اسات گز سوت لے کر مغل کے روز اس سوت کو جلا کر خاک کر کے اس کے بیٹر کے نیچے کی خاک پر لگو کہ پہلے سے محفوظ رکھی ہے شامل کرو۔

سات روز متوالی وہوپ کی حق دیتے رہا انھوں روز اسی خاک کو ایک جتنی محبوب کے سر پر ڈال دو خاک اس پر ہتھیں آپ کا محبوب آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ طریقہ جوہ سے ہے کام کرتا ہے۔

۲۹۸ اس عمل کو ۱۲۱ نیم کے پتوں پر ۱۲۱ نقش لکھئے اور بھر ان میں سے گیارہ مدد نقش روزانہ کے حساب سے سارے تھوڑے سے پانی میں انگلی میں تھارے پھر اس پانی میں آنے والی ٹیوارہ گویاں بنائے۔ پھر قمری سینے کی

۲۹۶ جبکہ محبوب پر کوئی عمل کا رگرن ہو رہا ہو اس وقت یہ فتیلہ تیار کر کے قدرت خداوندی کا کرشمہ لکھئے۔ اس مبارک نقش کو سفید کاغذ پر تازہ سیاہی سے پاک صاف ہو کر باہض لکھیئے اور صاف روئی اور پر سے پینٹ کر فتیلہ تیار کیجئے۔ رات کو ایک وقت مقرر کر کے نئے سکورے میں کڑوا تیل ڈال کر اس فتیلہ کو جلا بیئے اور رخ اس کا خان محبوب کی جانب ہو۔ انشاء اللہ فوری اثر ہو گا۔

اس علیٰ شریف کو نہایت ہی ضرورت کے وقت عمل میں لا جائے۔ کیونکہ نقش نہایت پراڑ، بھرپور آز مودہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جائز ضرورت کے وقت اس کا استعمال کیا جائے ورنہ بجاۓ نقش کے شدہ نصان ہو جائے کا اندر یہ ہے اس شرط کو مقدم تصور کیا جائے۔


چکی تارن خ سے دریا یا کسی نہر پر جاتا شروع کرے اور پھر ان گولیوں کو مجھیوں کو کھلادے یہ عمل گیارہ روز تک
برابر اسی طرح جاری رکھے گریا در ہے چلتے وقت راستے میں کسی عورت یا مرد سے بات نہ کرے انشاء اللہ تعالیٰ
گیارہ روز کے عرصہ میں مطلوب ماحتی بے آب کی طرح تزپیا ہوا طالب کی صدمت میں حاضر ہو جائے گا اور
بیش بیش کے لیے تابعدار رہیگا۔ نقش یہ ہے۔ ۸۶

فلاں	ر	۱۲۱	۱۲۱	فلاں
۱۲۱	۱۲۰	ب	۱۲۱	ع
۱۲۱	و	بن	ت	۱۲۱
فلاں	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	فلاں

۳۹۱ مندرجہ ذیل اسم کو ائم کے پھول پر سات مرتبہ پڑھ کر دم کر کے محبوب کو دیجئے بس سوچتے ہی آپ
حاشیہ میں دیوانی ہو جائے گی اس یہ ہے۔

جلد جلد کاملہ یوالیت سواہا

۳۹۲ مندرجہ ذیل نقش کو لکھ کر اور دھوکر اگر طالب مطلوب کو پلا دے تو مطلوب اس کی محبت میں اندھا ہو
بے آنہ محبوب طالب سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ رکھتا ہو وہ کسی طرح بھی اپنی محبت کو ظاہر کیے بغیر نہ رکھ سکے گا۔
طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہواں دوران لکھ کر محفوظ رکھ لیں اور جب کبھی ضرورت
نہیں تو اس کو پانی میں دھو کر محبوب کو پلا کیں انشاء اللہ تعالیٰ مقصد میں کامیابی ضروری اور لازمی ہو گی اگر اس
کی سے آپ کے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے تو آپ کا فرض ہو جاتا ہے کہ آپ کے جس عزیز یادوست
انہرورت ہیں آئے تو اگر آپ کے پاس یہ نقش لکھا ہو امو جو دہو تو اس کی ضرورت کو پورا کریں اور اگر تیار نہ ہو
ز نقش بغیر کسی معاوضے کے بتا دیں۔ نقش معظم یہ ہے۔



۳۹۹ مندرجہ ذیل نقش کو گز رگاہ مطلوب میں دفن کرے تاکہ وہ اس کو پہنچا دے جاوے بس مطلوب طالب
کے پیچے پیچے پھرے۔ نقش حکم یہ ہے۔

شش شش ص ص ص شش
ص ص ص شش

۴۰۰ جو شخص جائز محبت کا خواستہ گار ہو تو اس کے لیے مندرجہ ذیل نقش آسی رہا ہتھ ہوں گے۔
چاہیے کہ ان دونوں تھویڈوں کو ہر دوں ماہ ہر ساعت زہرہ چینی کے پیالے میں زعفران و گلاب سے
لکھے اور اس پیالے میں چائے یا شربت محبوب کو پانے انشاء اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کے عمل سے ہی محبوب مٹھا
فرمانبردار ہو جائے گا، تھویڈ اسی ہیں۔

۲۰۱	۲۱	۸	ک
۷	۲۱	ر	۳۲
۲۲	۵	۱۲۵	۱۹۵
۳		۲۲	۹

یہ ایک سلسلہ اور آسان فنکر ہے جو اس کے بعد خواص ہیں۔ جبکہ اور عادات میں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پھر طرفہ بدایہ اپنے جوہر میں تازیہ ہے۔

یہ اولیٰ اور بھرے کتے کی ترتیب میں کات کر جوہر دوتوں میں سوراخ کر کے کلاہ سے میں بھر دیا توں کو جعل پردار کے پروگرام میں دوتوں پر سستہ جھوٹ کر کی اگاہ کے روحانی کیفیت سے کھینچ دیا جاتا ہے۔

دن کر کر دیا جاتے۔

اُس سے تائید یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ کی محبت میں بھر جائے گا۔

لیکن جب اس کو حمل کے کمیت سے نکال کر جھوٹ دیا جائے تو اس کا جب محبوب اپنی جگہ حمل پر جعل بوجائے گا۔

دوسری افادہ یہ ہے کہ اگر کسی کے درمیان عداوت کرانا مقصود ہو تو ان دوتوں زیادتوں کے پار بھوک کر دو اور ان کو ایک ایک قٹ کے قاطر پر بلند ہی بلند ہون کر دو ایسا کرنے سے جس میں عداوت کرانا مقصود ہے خوب بخڑا ہو گا اور غافق پیدا ہو جائے گا۔

یہ تک دوتوں کاموں کے لیے کامیاب ہے بارہا کا آزمایا ہو ابے، بے خطا پایا۔

۳۰۲ دو مرقع انجمنے کے بڑے پر کسی سے کھدا کر اس میں کو بدھ کے روز شروع کر دیا جائے تھے پر کندن ہو گا وہ یہ ہے۔

طلسم	طلسم	طلسم	طلسم
طلسم	طلسم	طلسم	طلسم
فلان ابن فلان	ملی دب	فلان ابن فلان	ملی دب
فلان ابن فلان	فلان ابن فلان	فلان ابن فلان	فلان ابن فلان

طریقہ اس کا یہ ہے کہ سیاہ مرغی کا تازہ انڈا لے کر اس کو اچھی طرح پانی سے دھو کر لوپاں کی دھونی الہامیں کے بعد رعنی سے فلان بنت فلان خوش خیط اور اس کیش کو لکھ کر اس انڈے کو اسی چکد فن کریں لکھ کر انے کے بعد ایک انگلی میں لکھ کی لکڑی کے کوئے سلگا دا اور جب کوئے خوب مگ

م	زحل	ق	ل	مشتری
‘	۶	۸	۷	‘
	۹	۶	۷	عطارد
			۹	

جہاں سے آپ کا محبوب گزرتا ہو وہ جب بھی اس نقش کو چاہئے گا اس کے دل میں ایکبار کی محبت کا جوش و غوش پیدا ہوتے گے گا اور وہ چیز ہو کر آپ سے ملنے کی کوشش کرے گا۔ نہایت بحرث بھٹک ہے ضرور تجویز کریں۔

۳۰۶ جو شخص چاہے کہ قلاں شخص اس سے محبت کرے پس اس نقش کے ساتھ اپنے مطلوب کا نام لکھے اور اس کے پیڑ میں لکھا دے اس نقش کو ملک وزیران سے لکھے محبت قلبی ہو دے۔ نقش یہ ہے۔

۱۲۴ طارح ۲۱۳۱ م ۱۱۲۹۶۱ م ۱۳

۳۰۷ اگر آپ کسی پر فریضت ہو گئے ہیں اور دسال کے لیے بے بھین ہیں اور کوئی صورت برپیں آتی تو آپ مندرجہ ذیل عمل کا میں لا سیں انشاء اللہ آپ کو یقینی کامیابی حاصل ہو گی۔
طریقہ یہ ہے کہ اس نقش کو ایک کاغذ پر نقل کر کے اپنے پاس رکھے نقش یہ ہے۔

جب	جب	جب
جب	جب	جب
جب	جب	جب

جس وقت آپ کا محبوب آپ کے سامنے سے گزرے اس وقت اس نقش کو نکال کر انکو خے اور شہادت کی انگلی سے دباتے ہوئے زبان سے یہ کلمات ادا کریں کلمات یہ ہیں۔

يَحْبُّوْنَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَمْنُوا أَشَدُ حُبَّ اللَّهِ

یہ عمل کرتے ہی آپ کے محبوب پر یا محبوب پر عشق کا نشہ سوار ہو کر آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔ اگر مسلسل دس روز تک محبوب کے ساتھ یہ عمل کیا جائے وہ جب تک بھی زندہ رہے برا بر محبت کرتا رہے گا۔ ایک منت بھی وہ بھین سے نہ بینخے سکے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس نقش کو دو آدمیوں کے درمیان جو ایک دوسرے سے ضرورت سے زیادہ محبت رکھتے ہوں پھاڑ دو تو ان دونوں کے درمیان رنج و ملال ہو جائے گا۔ ایک دونوں میں بھکرنا ہو جائے گا۔ نقش دونوں کاموں کے لیے مفید اور بھرپور ہے۔

عَصْمَةٌ ۖ ۵۵۵ ۵۵۵ ۵۵۵

۱۷۹۳

فلان بن فلان

طریقہ یہ ہے کہ سطید اور بچنے کا نگہ پر دو نقش بنائیں (۱) نقش پر اپنے محبوب اور اس کی ماں کا ہام لکھیں اور (۲) نقش پر اس کا ہام اور اس کی ماں کا ہام لکھیں جس سے محبوب محبت کرتا ہے دونوں بھتوں پر دونوں کے ہام مدد ماں کے ناموں کے لکھ کر دو ہاتھے کے دونوں میں ذال دو جب آویں رات گزر جائے اس وقت دونوں کو آپس میں لزاں اشارہ شروع کرو اور زبان سے یادوں پر ہٹتے رہو۔

جب تک ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر اس دلخیفہ کو ختم نہ کرو اس وقت تک دونوں دونوں کو آپس میں لڑاتے رہوں اس طرح یہ عمل چودہ رات تک کرتے رہو۔

جب یہ عمل ختم ہو جائے اور مقرر رہ راتیں گزر جائیں اس وقت ان دونوں دونوں کو کسی کمیت میں دوسرے کے نام سے پر فتن کرو اور ان کو اس طرح چھپا دو کہ کوئی شخص بھی ان دونوں کو نکال نہ سکے۔

ادھر لوئے دونوں گے اور ادھر ان دونوں میں لزاں شروع ہو گی۔ اور ان دونوں میں اس قدر غافل پیدا ہو گا اور دونوں اس قدر بیز ار ہوں گے کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیاد نہ ہو گے اور دعخت ہوات دشمنی پیدا ہو جائے گی۔

اپ اس نقش کی نقل کر کے بالوں میں چھپا کر اپنے محبوب کے سامنے جائے۔ محبوب کی فرمادہ سے کوئی پڑتے ہی اس کا سر جھک جائے گا اور وہ اس قدر محبت کرے گا کہ آپ تمدن رہ جائیں گے۔ ان دونوں میں بھکرنا ہو جائے گا۔ نقش دونوں کاموں کے لیے مفید اور بھرپور ہے۔

یہ واضح رہے کہ ان دونوں لوٹوں کو کوئی نکالنے نہ پائے۔ اگر یہ دونوں لوٹے کسی شخص نے نکال لیے تو محظوظ کا قلب پہنچل ہو جائے گا اور محظوظ از سر تو اسی سے ملنے لگے گا جس سے کروہ اس مل کرنے سے پہلے ملتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں لوٹوں کا خیال ضرورت سے زیادہ درکھانا چاہیے تاکہ مل باطل نہ ہو اور اسی محنت جو دوران عمل کی گئی ہے رایگاں نہ جائے۔

۳۰۹ ایک کالے رنگ کی بیٹی تلاش کرو۔ بیٹی ایک بیال بھی اس کے جسم میں سفید ہے۔ جب آپ کو اسکی بیال جائے تو فوراً اس کی موچھوں کے بیال کترلو۔ اور ان کو واپس پاس محفوظ رکھ لو اور ان بیالوں کو روئی کی عقی میں پیٹ لوا اور اس فتنی کومنی کے چراغ میں ڈال کر اس کے اندر رکھی ڈال دیں اور نصف شب گزر جانے کے بعد کسی تجاکوثری میں چلے جائیں اور چراغ روشن کر دیں، اس چراغ کا زخم خانہ محظوظ کی طرف ہوتا چاہیے۔ اس کی روشنی سے کا جل حاصل کریں جب تک وہ جلتا رہے اس وقت تک اس عمل کو پڑھتا رہے۔
الودودیا و دودیا بدوح یا الطیف بحق یا و دودیا خالق محبت فلاں ابن فلاں میری محبت میں بے قرار ہو جائے۔ چراغ کی عقی کو جب وہ چھوٹی ہونے لگے بڑھا دے۔ جب کا جل تیار ہو جائے تو اس کو اپنی آنکھوں میں لگا کر محظوظ کے سامنے جائے جب محظوظ اس کو دیکھے گا انشاء اللہ فلانے کو مجھے بغیر ایک

۳۱۰ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو بھی بے اور آپ کا محظوظ آپ سے بات بھی نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں آپ پر بیان ہیں اور کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی۔ تب آپ اس آنکھی کے ذریعے اس پر بیانی سے فرما نجات حاصل کریں۔ طریقہ یہ ہے۔

۳۱۱ اس مرد سے بہت سے مایوس عاشقوں کی جو کر خود کشی پر تیار ہو چکے ہیں غنی زندگیاں میں، یہ بہت ہو جائے گا اور بیچھے بیچھے پھرے گا کسی طرح قرار نہ پائے گا۔
۳۱۲ اس مرد سے بہت سے مایوس عاشقوں کی جو کر خود کشی پر تیار ہو چکے ہیں غنی زندگیاں میں، یہ بہت کامیاب اور زدواذ ہے طریقہ مرد کا یہ ہے۔

۳۱۳ جو مل درج کیا جا رہا ہے یہ عمل محظوظ کے تینگیر کرنے کے لیے جیب و غریب صفات کا حال ہے کبھی خالقیں جاتا لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ جائز محبت کے لیے ہو اور تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ اس کو کیا جائے اور ان بصورت دیگر علاوہ تنا کا میابی کے عامل کو خود اپنے لیے شدید خطرات کا امکان ہے۔

۳۱۴ مسئلہ کھل کر کے مانند غبار کے باریک ٹھیکیں میں۔

۳۱۵ علی الصباح ایک ایک سلامی اپنی آنکھوں میں لگائیں اور اپنے محظوظ سے ملاقات کیلئے پہنچ بیکھوں سے آنکھوں کا نکراوہ ہو گا محظوظ آپ کی محبت میں بے عین ہو کر قدموں میں گرجائے گا اور محظوظ بیکھوں سے آنکھوں کا ہذا ہو گئی جدانہ ہو سکے گا۔

۳۱۶ یہاں آپ کا ہذا بعد اور ہے گا کبھی جدانہ ہو سکے گا۔
۳۱۷ اس کا ضرور خیال رکھیں کہ جس وقت سرمد آنکھوں میں لگا کر محظوظ سے ملاقات کیلئے جائیں تو رات میں کسی سے باخس نہ کریں نہ آنکھیں ملائیں ورنہ جس سے آنکھیں مل جائیں گی وہی بیکھے بیکھے ہو جائے گا۔

۳۱۸ جو شخص یہ چاہے کہ کسی کو اپنے عشق میں دیوانہ کرے تو اس مل کو شروع پا نہیں سے مقرر کر کے ہر روز ہنپہ تعداد پڑھا کرے۔ خدا نے چاہا تو تمہوڑے ہی دونوں میں وہ فرمانبردار ہو جائے گا لیکن بسم اللہ سیست ہر چار ہاتھ پر میں آیا ہے دعا یہ ہے۔

۳۱۹ لا إِلَهَ إِنْهُنَّ إِلَّا اللَّهُ مَلَائِكَةُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ فَلَانَّ كُوْكُبُهُ بَغْيَرِ أَيْكَ رَاعِتُ كُلَّ نَدْهَسِ عَيْسَى ذَكْرِي بِرَهَانِشَ مُوسَى مُهَرِّي بِرَزْبَاشَ فَلَانَّ كِبِيرَ ہم مطلوب کا یوں ہے۔

۳۲۰ جو غنی یہ چاہے کہ کسی کو اپنے عشق و محبت میں بے قرار کرے تو اس اعشق کو اوپر بارہ نکلوے روئی گدم کے ہر نکلوے پر ایک ایک فقرہ مندرجہ ذیل لکھئے اور اپنی (یعنی چوتھے) کتے کے آگے ڈال دے ہکڑوں کا جاگائے لیکن یہ خیال رہے کہ اگر مرد کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے تو نر کتے کو کھلانے اور اگر عورت کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے تو ماہہ کتیا کو نکلوے کھلانے یہ عمل طسم کی حیثیت رکھتا ہے بارہ تجربہ کیا گیا ہے مجرب ہوتا ہوا ہے۔

۳۲۱ فقرے اس طسم کے یہ ہیں۔

ع د ح و ل ا د ل و ع م و ل ا ه و ل ا

۳۲۲ قو ل ا ع ط ع ط س ل ۱ ۵ م ا ع ط ع ه د

۳۲۳ جو مل درج کیا جا رہا ہے یہ عمل محظوظ کے تینگیر کرنے کے لیے جیب و غریب صفات کا حال ہے کبھی خالقیں جاتا لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ جائز محبت کے لیے ہو اور تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ اس کو کیا جائے اور ان بصورت دیگر علاوہ تنا کا میابی کے عامل کو خود اپنے لیے شدید خطرات کا امکان ہے۔

۳۲۰ جو شخص جائز محبت کے لیے یہ عمل پڑھے گا تو اس کی سیر کا کام وے گا اور اگر ناجائز طور پر اس کا استعمال کیا تو بجائے فتح کے نقصان پہنچے گا اس لیے اس معاٹے میں یہ اختیار ضروری اور لازمی ہے، عروج نامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحيم سات سو پھرایی مرتبہ پڑھ کر پانی پر پھونک دیں اور اس پانی کو محبوب کو پاندھے اس پانی کے پیچے ہی محبوب محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور بغیر طالب کے اسے قرار نہیں گا اپنے عمل پہنچ جو بھرپور ہے۔

۱۶ ۹۱۱ ۵ ۱۱۱

۲۱۷ م

فلاں بن فلاں بمحبوب فلاں بن فلاں بحق اور گرد

فلاں بن فلاں کی جگتا م مطلوب کا سچ نام اس کی ماں کے بمحبوب کے آگے فلاں بن فلاں زندہ نام طالب کا اور طالب کی ماں کا لکھے۔ یہ خیال رہے کہ پہلے نام مطلوب کا اور مطلوب کی ماں کا اس بدلے بعد میں نام طالب اور اس کی ماں کا لکھا جائے۔

۳۲۱ بعد نماز عشاء اول و آخر امر تپہ درود شریف پڑھیں۔ اور درمیان میں مندرجہ بالا عمل ۲۸۷ء

طالب کو پہلے کہ مطلوب کی تصویر رکھیں یا تصور اتنا کریں کہ محسوس ہو کر مطلوب سامنے دست بر تکڑا ہے اور کوئی کر لیں اور محبوب کھلاوے انشاء اللہ تعالیٰ کھاتے ہی عاشق فریفت ہو جائے گا۔

۳۲۲ کشش پر سورۃ المشرح اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۳ شہد پر سورۃ اخلاص اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۴ چھوارہ پر سورۃ والتین اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۵ مصری پر سورۃ انا غطینا اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۶ قند پر سورۃ فاتحہ اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۷ نار جبل پر سورۃ لا یلاف اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۸ بادام پر سورۃ اذ ازلزلت الارض اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۹ سمجھ کر کھانے سے انشاء اللہ تعالیٰ فوراً کامیابی حاصل ہوگی۔

۳۲۱ یہ ایک لا جواب نہیں ہے جس کو جائز محبت کے لیے تیار کر کے استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔ محبوب نہیں ہی تھنز کیوں نہ ہواں نہ کوئی بھائیہ شرط ہے محبوب قدموں پر آگرے گا بہترین عمل ہے بار بار کا آزمایا ہو اب نہیں مندرجہ ذیل ہے۔

۳۲۲ طالب کو پہلے کہ مطلوب کی سات چیزوں کو لے اور ان پر جدا بجد اسورة قرآن پاک دم کر کے سر کو سمجھا کر لیں اور محبوب کھلاوے انشاء اللہ تعالیٰ کھاتے ہی عاشق فریفت ہو جائے گا۔

۳۲۳ کشش پر سورۃ المشرح اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۴ شہد پر سورۃ اخلاص اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۵ چھوارہ پر سورۃ والتین اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۶ مصری پر سورۃ انا غطینا اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۷ قند پر سورۃ فاتحہ اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۸ نار جبل پر سورۃ لا یلاف اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۲۹ بادام پر سورۃ اذ ازلزلت الارض اکتا لیں بار پڑھ کر دم کرے۔

۳۳۰ سمجھ کر کے کھانے سے انشاء اللہ تعالیٰ فوراً کامیابی حاصل ہوگی۔

۳۲۲ جو شخص کسی کے عشق و محبت میں گرفتار ہو کر اپنی زندگی سے باتھو ڈھونپ کا ہو اور بغیر اس کے حوالے اس کا زندہ درہ اسکل ہی نہیں بلکہ ممکن ہو تو وہ شرط جائز کا پابند نہ کر جس بیل عمل کرے یہ عمل تیر بدف پابند ہو گا۔ محبوب طالب کے قدموں پر جنک جائے گا۔ دنیا تھر ان رہ جائے گی مگر جائز صورت اغفاری پر گئی اور نہ شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔

۳۲۳ گئے کے شانے کی بڑی جوکہ سالم ہو حاصل کرے اور اس پر سیلی سے مندرجہ ذیل حسر کھجھے

مختصر	بعق جبرايل	مختصر	مختصر	مختصر	مختصر	مختصر
۶۹	۷۲	۷۵	۷۲	۷۲	۷۵	۷۲
۷۳	۷۳	۷۸	۷۳	۷۳	۷۸	۷۳
۷۴	۷۷	۷۰	۷۶	۷۷	۷۰	۷۶
۷۵	۷۶	۷۵	۷۶	۷۶	۷۶	۷۵

۳۲۴ بحق میکائیل
الطب فلاں بن فلاں علی الطیب فلاں بن فلاں
اکیبل السعیل الجعل السامر السامر السامر
الوحاد او عاد او عاد

۳۲۵ اکیبل ۲۲ کوشت، کچا براز، لیسن ہو رجڑ سے سخت اختیار کی جائے۔

۳۲۳

اگر کوئی پڑھائی نہ کر سکے تو مطلوب مع والدہ کے اعداد اور طالب مع والدہ کے اعداد انکوں کے اذل
اعداد ۲۷۸ میں مع کر کے نقش چاروں عناصر کے مطابق تحریر کریں اور کل تعداد کے مطابق حروف مقلوب
پڑھ کر دم کرے اور عناصر کے مطابق نقوش کو استعمال کرے۔

آٹھی کوہاں کے قریب فن کر دے۔ یہ اختیاط کرے کہ نقش جلنے نہ پانے و مرد حب کے محلہ
بعض ہو جائے گا جو کہ لا علاج ہے۔

آپ کسی آب نار سیدہ ذولی میں بند کر کے دریا میں یا نہر میں بہاؤ دیں۔

خاک کو کسی قریعہ قبرستان میں بیت کے سرہانے (مور سعید) دفن کر دے۔

بادی کو کسی پھل دار درخت پر باندھ دے۔

ایک ہفت میں مطلوب رجوع کرے گا۔ اگر بغرض حال رجوع نہ ہو تو دوبارہ لکھیں۔ کہکشاں کیلئے
روگی ہے۔ انشاء اللہ مطلوب بے قرار ہو کر رجوع کرے گا۔ محرب است۔

۳۲۵ ایسے افراد خان جن میں آئے دن لڑائی جھکڑا ہوتا ہو۔ حتیٰ کہ ایک دوسرے کو اپنا جانی دشمن کھبہ
ہوں یا دستوں میں بھائیوں میں یا عزیز و اقارب میں غلط فہمی کی بناء پر پھوٹ پڑی ہو جس کا سبب چاہے ہو
ہی کیوں نہ ہو۔ اس نقوش معلم کی برکت سے بہت جلد آپس میں پیار و محبت بڑھے گا اور دل سے ہر تم کے سلسلہ
دشہات دفع ہو کر ملکم دوستی قائم ہو گی۔

اس نقش کو زعفران کی سیاہی سے تحریر کر کے کسی میٹھی چیز میں گھول کر پا دیں۔ اول قبیلے والوں
سے اڑات سعد پیار و محبت ظاہر ہوں گے۔ بصورت دیگر سہ بار تک دیں۔ محرب ہے۔

یا حلینم یا حلینم یا حلینم یا کرنیم

انکَ عَلَىٰ كُلَّ شَئِيْ قَدِيرٌ

۱۲۳	۱۲۶	۱۲۹	۱۱۶
۱۲۸	۱۱۷	۱۲۲	۱۲۷
۱۱۸	۱۳۱	۱۲۳	۱۲۱
۱۲۵	۱۲۰	۱۱۹	۱۳۰

رَبَّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَىٰ وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةٌ
يَا قَدِيمِ الْإِحْسَانِ الْحَبْ فَلَانْ بْنُ فَلَانْ
الْحَبْ فَلَانْ بْنُتْ فَلَانْ

۳۲۶
وَمَنْ آتَيْهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ فَنْ أَنْفَسْكُمْ أَرْوَاحًا جَاءَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
لَيْسْكُمْ مَوْدَدَةً وَرَحْمَةً۔
اول ۷ یوم تک اس آیت مبارکہ کو ۷ مرتبہ بعد از تمہارے عشاء اول و آخر درود شریف ۱۱ مرتبہ باوضو
خلال ہر جگہ سرخ و سفید حسب حال سامنے رکھ کر پڑھیں اور صبح کو مشاہی مخصوص بچوں میں باتھ دیں۔ بعد
از ۷ یوم کے بعد آپ اس کے عالی ہوں گے عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے ۲۱ مرتبہ آیت مبارکہ کی روزانہ
ٹھانٹ کرنا ضروری ہے۔

اس آیت کو جائز جگہ استعمال کریں بصورت دیگر رجعت سے وہ حال ہو گا کہ دیوالوں کی طرح
اڑھاں بونے گے۔ اس لیے اس عمل کو صرف محبت زوہیں میں استعمال کریں تاکہ کوئی شوہر بھی ملے بعد میں
باغت بھی نہ ہو۔ بوقت ضرورت ہر اراضی شخص کو پانی یا پھر میٹھی چیز پر ۷، ۱۱۳ یا ۲۱ مرتبہ پڑھ کر دم کر کے کھلادیں
ڈالوں کریں کہد باغزت فلان بن فلان کو فلان بن فلان کی محبت میں بے قرار کرے اور وہ رجوع کرے یا
ہاتھی چوڑو دے۔ انشاء اللہ بھلکی کی مانند تاشیر ظاہر ہو گی اور مطلوب خود رجوع کرے گا اور اپنی ظلطی کی معافی کا
ڈالو ہو گا۔ ابھائی محرب ہے۔ اعتقاد اور خلوص شرط اول ہے۔ میاں اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے لیے
اٹل کرنا ہے تو صرف مطلوب کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ کر پانی یا کسی شربت یا کسی میٹھی چیز پر دم
اکھلادے۔ فوراً اثر ہو گا۔

۳۲۷ اگر مطلوب دور ہو اور طالب اس تک نہ پہنچ سکے تو ابھائی خلوص نیت سے طالب کے لیے من
سکردار اپنی بھنپاک کے صدقے اس نقش کو تاشیر عطا فرم اور فلان بن فلان میری جانب رجوع کرے۔
اول یا شیاد جمع کریں اور زعفران سے رجال الغیب کو پشت پر رکھ کر خلوص نیت سے نقش لکھئے اور
آنکھن ازیل ہے دے کر قلع کو اپنے بازو پر باندھے۔

یاودود یا بدح یاودود

قول	یاودود	یا بدح	یاودود	یا بدح
۱۵۵	۱۵۸	۱۶۲	۱۳۸	۱۴۰
۱۶۱	۱۳۹	۱۵۳	۱۵۹	۱۴۱
۱۵۰	۱۶۳	۱۵۶	۱۵۳	۱۴۲
۱۵۷	۱۵۲	۱۵۱	۱۶۳	۱۴۳

۳۲۸ یحق یاودود یا بدح یاودود
الحب فلان بن فلان علی الحب فلان بن
فلان القائم الباقي تاحیات حب ربه
باق

اشیاء نیاز بختن پاک درج ذیل ہیں۔

آب خورہ (آب زار سیدہ) مٹی کا۔

سوپاڈ برتی۔

۵ عدد جنیلی کے پھول۔

سوگز سفید کپڑا۔

۱۲ اردو پر نقد۔

نیاز دلانے کے بعد تمام اشیاء کسی کو ہدیہ کر دیں اور لکھ لکھ کر اپنے دامن ہازوڑی باندھ لئے ہوں۔ عورت ہائی ہازوڑ پر باندھے اور جب بھی وقت ملے مطلوب کا تصور کر کے یاودود کا ورد کرے۔ ۳۲۸ اس مل سے مستفیض ہونے کے لیے یاد موصدق دل کی اشہد ضرورت ہے۔ یہ ناب لکھ لکھ کر باندھ کر کیا جا رہا ہے۔ ترکیب استعمال انجینائی سبل ہے لیکن جائز اور ناجائز کو ضرور و مکرہ جائے بصورت دیگر جمع سے پچاہیں ہو جائے گا۔ اس لیے سخت حجیب کی جا رہی ہے۔ آخری صندوق اس مل سے استخارہ کیا جائے کیونکہ روحاں کیات سے ناجائز کام کروانا بجاۓ خود اپنے لیے صدای

ہوازے کھول لیتا ہے۔ کام تو دہ کر دیں گے تھر مصائب سے پچھکارا پانہ ہا ملکن ہے ہاں شری اور جائز جک

شنال کریں انشا اللہ تکلی کی ہی شیر سے اڑ دکھائے گا کہ مال حیران رہ جائے گا تو ہایا ب مردی مل مل حقیق

پڑے۔


ج	و	و	ب
ب	و	و	ج
و	ج	ب	و
و	ب	ج	و

با آفتاف المخر و الواس بستم و سو ختم دل و جان و عقل
و هوش و فهم و دهم و هشت اندام (فلان بن فلان علی حب فلان بن
فلان) اسرع طرفه العین الواحه الساعه كتب هذا التعويز الحب
(فلان بن فلان علی حب فلان بن فلان شدید الحب یا یغضا، ابدا
بحق یاودود یاودود یاودود بحق لا الله الا الله محمد رسول الله).

۱۳ رحیم	۱۸ رحمان	۱۱ مغنی
۷ احمد محمود	یہاں مقصد لکھیں	۱۵ کریم
۱۲ امجدیب	۱۳ محب	۱۶ قادر

اول یاد موصدق نیت سے مطلوب کے بارے میں ہوئے کہ فیصلہ کریں کہ آیا شری ہے یعنی میاں
ایلی رٹھی ہوئی یوہی کے لیے یا عورت اپنے ہاراض مرد کے لیے اس مل سے استخارہ کر سکتی ہے۔ تو چندی
چھرات کو روزہ رکھیں اور شیر برخی سے انتفار کریں۔ نیاز مخربین ادا کر کے اول سات رگی مشائی پر بختن پاک
کے ہم کی نیاز دلائیں اور نئے قلم اور زعفران کی سیاہی سے اس عمارت مل اور لکھ کو تحریر کریں۔ ۳۲۸
لکھیں۔ ایک اپنے پاس رکھیں، ایک آنے کی گولی میں بند کر کے آپ رہائی کے جواب اکر دیں اور تیر کر کی
ہمداد دلت سے یاد کر دیں یا کہ ہمارے۔ انشا اللہ مطلوب بے قرار ہو کر نہ صرف حاضر ہو گا بلکہ عاصت کا

اس نریت کو ۳۴ بجھ کرتے گا (سکل، بیدار اور بصرات) بعد از تلازہ عشاں جو سیدار میں
دیکھ رہے گا۔ اب طالب پر فرض بنتا ہے کہ مطلوب کی نریت مکمل کرے۔ نریت کے برائے جو میں اس کے
جانشیں اور تصور کریں کہ یعنی جس رہی ہے فلاں بن فلاں کا دل بیری محبت میں ہے اور وہ بے قرار ہو کر
نریت کرے۔ اب تک ۳۴ بجھ میں رجوع کرے گا۔ ۷۰ام کے لیے ہرگز ہرگز نہ کریں ورنہ جان بھی جا سکتی ہے۔
بصورت دیگر میں کے سلسلہ طالب کو ایسا لفڑان پہنچا جیسے کہ جس کی وجہ سے بے جا نہ ہوئے
گی۔ صدق دل سے بخرا رات جلا کر میل کریں ہا کہ جلدی کامیابی ہو۔ اس کی تائیم ۲۲ کجھے میں خاکہ میں
بصورت دیگر لاش لکھنے میں کوئی کوئی کوئی ہوئی ہوگی۔ اگلی تو چندی بصرات کو یا اتوار کو میل کریں اور چاروں
گلے ہے۔



فلاں بنت فلاں ملی الحب فلاں بن فلاں دل و جگر سو خر خافر آمد۔

۳۲۱ یہیں اس بیکہ موڑ ہاتھ ہو گا جہاں پر آپ کو کسی حاکم یا کسی شخص سے اپنا کوئی ضروری کام کرنا تھا تو
اوہ شخص پا بے ستھانی شک دل کیوں نہ ہو لیکن میل کو دیکھتے ہی اس کی خود احتجت پوری کرتے ہیں، اب تک
بڑھنے کا شک ہے۔

طریقہ یہ ہے کہ وزنی چندی اتوار ایک بعد بکھڑاک کر کے اس کا دست راست میل کر کے اس
کو کھکھ کر کے بھٹکت اپنے پاس کھوئا رکھیں، اگر کسی سے کوئی صادرت درجھیں ہو تو اسی دست راست کو کھپے
پاں، اگر کر ان شخص سے پاس جا کر اپنی صادرت بیان کرے، لمحہ میں اتوار احتجت پوری کرے گا اور سوہنے ہے۔

۳۲۲ ۳۲۲ بذریعہ شبانی کی بندی ویزو اتوار میں کر کے جو شخص اپنے پاس رکھے گا اس کو اگر بروں عزیز
رجمیں کی بیٹھی نہ ہونے پائے اور نہ ہی جگہ تبدیل کریں ورنہ میل باطل ہو جائے گا، اس کو
زمین پر لے گا۔ اگر خواب میں کوئی منع کرے تو صحیح کو انکھ کرسا کلکو براگوشت لے کر اپنا صدقہ ادا کیا

آئندہ نہیں روکے گا۔

۳۲۰ اگر صباں بیوی میں پھوٹ پر گئی ہو اور دلوں میں اختلاف شدت اتفاق ہو گی اس کو رجھنے کا
نہ ہو تو اس میل سے استغفار کریں۔ انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔ بحر باست۔

دیگر میں اس کے مطلب کی نریت مکمل کرے۔ نریت کے برائے جو میں اس کے
بصورت دیگر میں کے سلسلہ طالب کو ایسا لفڑان پہنچا جیسے کہ جس کی وجہ سے بے جا نہ ہوئے
گی۔ صدق دل سے بخرا رات جلا کر میل کریں ہا کہ جلدی کامیابی ہو۔ اس کی تائیم ۲۲ کجھے میں خاکہ میں
بصورت دیگر لاش لکھنے میں کوئی کوئی کوئی ہوئی ہوگی۔ اگلی تو چندی بصرات کو یا اتوار کو میل کریں اور چاروں
گلے ہے۔

۳۲۹ اس میل میں کوئی شخص اپنے استعمال میں لائے جو نہ رہا اور شری صد و کوئی کھاتا ہو۔ اس میں تاکہ
دل پر فرض ہے کہ ۲۱وہ ۳۴ بجھ پر بیز جہاں جلاں کرے۔ بصورت دیگر میل ۲۱وہ ۳۴ بجھ کا اور جو اسے دلت نے
شایع کے پکھہ ہاتھ نہ آئے گا۔ صدری میل ہے۔ بارہا کا آزمایا ہوا ہے۔
نی احوال ۲۱وہ ۳۴ بجھ کا میل جب نایاب صدری حاضر ہے۔ طالب صدقہ دل سے کرے گا تو فرمدی
مراد سے اپنی بھولی بھر لے گا۔ میل یہ ہے۔

لا إله إلا الله كر منيس ينتهي كويته نديس سونى
سوئے نديس مجھ بن فلاں بن فلاں کو آدم نديس يا حبيب
يا حبيب يا حبيب

آپ آگ روشن کریں اور تھوڑی تھوڑی دری کے بعد لوپان ڈالیں تاکہ خوشبو پھیلے۔ بعد ازاں
عد دیاہ مریخ لیکے ہر دانے پر یہ میل ایک بار پر میں اور اس کو آگ میں ڈالتے ہوں گیں۔ اول و آخر اہم ترین
شریف پر میں۔ تصور مطلوب کا رکھیں کہ یہ مریخ جس طرح میل رہی ہے فلاں بن فلاں کا دل بیرے ہے
قرار ہو کر میل رہتا ہے۔ مجھ سے فوراً منٹے آئے گا یا آئے گی۔

تحداہ میں کی بیٹھی نہ ہونے پائے اور نہ ہی جگہ تبدیل کریں ورنہ میل باطل ہو جائے گا، اس کو
زمین پر لے گا۔ اگر خواب میں کوئی منع کرے تو صحیح کو انکھ کرسا کلکو براگوشت لے کر اپنا صدقہ ادا کیا
آئندہ نہیں روکے گا۔

۳۲۱ کوہاں کوہاں اس کے مطلب اس کے مصروف میں اتفاق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی صدرت کو
نہ ہو تو اس میل سے استغفار کریں۔ انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔ بحر باست۔

بوجا، آزمودہ بھرپ بے۔

۳۵۲ اگر آپ کوئی سے جائز کیز احتمل ہو جائے تو آپ اس کو بڑے کشیدہ جالیں اور اس بات کی خوبی دوسرے شخص کو نہ ہوئی چاہیے بعد وہ بدلے ہوئے کیونے کے مادہ میں مٹر گاہب ڈاٹھر موتی خوب اچھی ملیں اور اپنی سیدھی طرف کی صنوں پر لگا کر جس کے سامنے جا کر اس کو آواز دیں فی المغور مکر ہو گی۔ درجہ ۴ آزمودہ بے۔

۳۵۳ عام طور پر لوگ اس حتم کے اعمال کی ۲۴ اسیں سرگردان، بچے یہ جو کہ تہائیت آسان ہو اونچا، محنت اس میں درکار نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ بے خطا بھی ہو لبند امیں بہتانہایت آسان اور اس گے اجزہ اعلیٰ احصوں اور اثرات مثل برق کے ہیں جس آزمائش شرطہ الزم ہے۔

عروج ماہ قمری میں تو چندی اتوار کو سورج طلوع ہونے سے قبل مرگت میں جا کر تھوڑی ہی زار لائے اور اس میں زانیاہ کے تحفے سے ہے پر ملا کر رکھے اور اکھیل خود کل اس میں ملا کر جائے لختا ہوئے، لعاب دہن خود ملا کر رکھے چھوڑے بوقت ضرورت ایک رتنی اس مادہ کا جس کو کھلانے فی المغور مطیع ہو گا اُنکو ممکن نہ ہو تو مطلوب کے سر پر یا کپڑے پر لگا دیں مطیع ہو گا اور اگر سر پا پھر کپڑے پر لگا میں گے تو پھر آپ روزانہ یہ عمل کم از کم ایک ہفت کرتا ہو گا، بہر حال دونوں صورتوں میں عمل کام کرتا ہے تکرازمائش شرطہ بے۔

۳۵۴ تو چندی اتوار کو سورج طلوع ہونے سے قبل آشیانہ زانی سے چند پر حاصل کرے اور اسی ان بیدار انجھر کی ایک بعد پڑپ ایک گز کی تو زکر پر دن کو چوب میں کسی دھاگے سے ہاندھے اپ آپ کی مادہ کل سیاہ کوسات مرتب اس چوب سے ماریں پھر گمراہ اس آجائیں اور چوب کو بعد پر دن کے جلا کر غاشکستہ ہاندھے پھر اس میں لعاب دہن خود ملا کر چند چوب بنا لیں اب ایک حب جس مرد یا مورت کو ماریں گے وہ ٹھنک عالی کے ساتھ ساتھ پھرے گا جانا چاہیے کہ یہ بالکل بے خطا عمل ہے اگر آپ نے اس کو ایک مرجد چار کر پہاڑ حب کے دوسرے کسی عمل کی حاجت باقی نہ رہے گی۔

۳۵۵ پر زانیاہ، پر طاؤس، ہاتھ ہمہ کھمل۔

ان تینوں اجزاء کو کسی برتن میں جلا دیں لیکن یہ کام بروز چندی اتوار کو کرچا ہائے اور اسی دن کی چورا بے کی منی سورج طلوع ہونے سے قبل لے آئے اور مندرجہ بالا صواد میں ملا لیں پھر لعاب دن فہر جیوب بقدر خود بنا لیں اور بوقت ضرورت ایک حب کو لے کر لعاب دہن سے کھس کر مطلوب کے جسم پر لگانے پر لگا دیں، فی المغور مطیع ہو، تہائیت زبردست عمل ہے، یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس کا لعاب دہن اسی عمل کے

اجرامیں ٹاہو چو مطلوب اسی کا مکر ہو گا۔

۳۵۶ یہ دب کا تہائیت زبردست طلساتی عمل ہے اور ہرگز خطا نہیں کرتا، یہ عمل اس وقت آپ استعمال کریں بجدا آپ بالکل مابعد ہو چکے ہوں اور کوئی عمل آپ کا کارگرنہ ہوتا ہو گا کہ آپ کو ایک مرجدہ محنت ضرور کرنا یہیں بین آپ کی محنت رائیگاں نہیں جائے گی، لیکن اس کو ہاتھا جائز استعمال نہ کریے گا اور نہ سخت عذاب میں جھٹا جائے۔

دماغ ہوم ایک توں، خون پد پد دو ماش۔

مندرجہ بالا دونوں اجزاء کو لے کر پاہم ٹھلوٹا کریں اور کسی برتن میں ڈال کر آگ پر چند مٹت پکائیں اس میں درکار نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ بے خطا بھی ہو لبند امیں بہتانہایت آسان اور اس گے اجزہ اعلیٰ احصوں اور اثرات مثل برق کے ہیں جس آزمائش شرطہ الزم ہے۔

عروج ماہ قمری میں تو چندی اتوار کو سورج طلوع ہونے سے قبل مرگت میں جا کر تھوڑی ہی زانیاہ کے تحفے سے ہے پر ملا کر رکھے اور اکھیل خود کل اس میں ملا کر جائے لختا ہوئے، لعاب دہن خود ملا کر رکھے چھوڑے بوقت ضرورت ایک رتنی اس مادہ کا جس کو کھلانے فی المغور مطیع ہو گا اُنکو ممکن نہ ہو تو مطلوب کے سر پر یا کپڑے پر لگا دیں مطیع ہو گا اور اگر سر پا پھر کپڑے پر لگا میں گے تو پھر آپ روزانہ یہ عمل کم از کم ایک ہفت کرتا ہو گا، بہر حال دونوں صورتوں میں عمل کام کرتا ہے تکرازمائش شرطہ بے۔

۳۵۷ چاہیے کہ سب سے پہلے بخور زیر ہو، ہر چیز، جس و قریب تر کر کے رکھے لے بعد، جاندی کی چودہ ہاتھ کی چیزیں دینے میں مدد دینے اور ایک پتھا مرد کا جبکہ دوسرا مورت کا ہو گا، اب ان دونوں کو لے کر ہوں پر میٹھہ، میٹھہ ہاتھ معدود الد تحریر کریں اور ایک میٹھہ کرے میں جس میں کوئی دوسرا سامان نہ ہو اور کرہ صاف سخرا ہو اس میں بخور دو شن کرے اور ایک پتھے کو شرق کی سمت جب کہ دوسرے کو مغرب کی سمت لانا کرہا اتفاقی رکھے اور ان دونوں کے آئندے سامنے ایک دلکش رکھنے اور اس کے پیچے میں ایک نشان لگائے، یعنی

ایک لکیر دوسرے حصوں میں تقسیم ہو گئی، اب آپ لکیر کے آدھے دھ۔ پتھے کی طرف سے لکیر کو چودہ ہو رہے حصوں میں تقسیم کریں اور دوسری طرف کی لکیر پر بھی ایسی میں کھری لکیر کل اخراجیں حصوں میں بخرا کریں اور اصل لکیر کا مقصود یہ ہے کہ آپ دوسرے دونوں پتوں کو آپس میں نزدیک کرتے جائیں گے جو کل اخراجیں ہاتھ کی تاریخ کو چاہیے اور روزانہ بخور بھی پتھے کے نزدیک کرتے وقت جانا چاہیے اور کمرے میں پر لگا دیں، فی المغور مطیع ہو، تہائیت زبردست عمل ہے، یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس کا لعاب دہن اسی عمل کے

-

عامل کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بودہ یہم تک نہ جائے اور روزانہ صرف ایک ایک حصہ ان دونوں پر ہوں گے۔

۳۶۱ اس مل کی دو خصوصیات ہیں ایک تو اب کی تائید رکھتا ہے جبکہ دوسری تائید طامہ و پر حاصل ہوتی ہے
واری کرنے کے لیے بھی استعمال میں لا جایا جاتا ہے، دونوں تائیدوں پر اتم اس میں ہو جو اس کو کسی فخر کرنے
کا آپ پر مشتمل ہو جائیں گی، اپنہ اپنے خاص دعاء کو اس مل کی اچازت دی جاتی ہے۔

۳۶۲ فتح اسد میں رہ غن کا وہ ملا کر اپنی پیشانی پر لکا گیں اور پھر مطلوب طالب باحتمام کے رو برو جائیں گے، حکم خدا
ایجھے یہ مطیع مخزہ ہو۔

۳۶۳ اگر کسی حورت کا خادم بد اخلاق ہے۔ بات بات پر بذریعتی کرتا ہو اور بد سلوکی سے بھی آتا ہو۔ تو
حورت کو چاہیے کہ عشاہ کی نماز کے بعد "یا مومن" پڑھ جز امرت ۲۱ دن تک عشاہ کی نماز کے بعد چھ گھے روزانہ
بڑھانے کا عمل کرنے پر اس کےحضور اپنے خادم کو فقادار ہنانے کی انتہا کرے۔ انشا اللہ اس مل کی رہکت سے
بڑھانے ہوں، ورنہ شاید مل موڑ ثابت نہ ہو، قارئین پر واضح ہو کہ دونوں توزیعیک ہوتے جائیں گے، اتنا یہی طالب
طالب مطلوب زدیک کرنے کا مل کی ایک وقت متر رہی کرتا چاہیے اور بتنا آفتاب دہنیا پر زدیک ہوتے
جائیں گے اور جب مہتاب آفتاب سے مل جائے گا اس وقت طالب مطلوب بھی دہست نہ جائیں گے۔

۳۶۴ کسی گھر میں اگر بہو کی تقدیری کی جاتی ہو۔ بات بات پر اس کو کسی بھی بات کے طمع دیئے جاتے
ہوں۔ گھر میں ساس، سریانندیں، غیرہ اس کے چیزوں پر ہے، اون اور اس کو ذات کا نشانہ ہناتے ہوں
تو اسی بہو کو چاہیئے روزانہ ۳۱۲۵ مرتبہ "یا مععا" پڑھ کر ایک گاہ پانی پر دم کر کے خود پی لیا کرے۔ اس مل کو
کاہر ۳۰ دن کرے اگر درمیان قدرتی مجبوری کی وجہ سے کچھ دن ناچہ ہو جائیں تو اس کے بعد مل جاری رکھے۔
اٹھاندے اس مل کی رہکت سے اس کا وقایت اس کی سر ایل میں قائم ہو جائے گا اور پورا گھر ان اس سے محبت
بھی کرے گا اور اس کی عزت بھی۔

۳۶۵ اگر کسی حورت کا شوہر تابعہ ارتہ ہو اور بات بات پر بے زثی کا مظاہرہ کرتا ہو تو اس کو چاہیئے کہ ۱۴ یہم
ٹک لیا رہ جز امرت ۲۱ دن اپنے شوہر کی اعلیٰ علت و فرمائیہ داری اور فقاداری کی
اٹھ کرے انشا اللہ نہ بروز دست کا میا بیٹھے گی۔

۳۶۶ اگر کسی حورت کو اس کا خادم بنا ساس لگھ کرتے ہوں۔ اور گھر میں اس کی کوئی عزت نہ ہو تو اس کو
پڑھنے کا دل چاہے بخوبی آزمائش کر کے تجربہ کر سکتا ہے، کوئی ڈار و تایاب اجزاء تکسیں ہے کہ آپ کو نہ
سمیں ہے پناہ رو خانی قوت موجود ہے۔

۳۶۷ جب کے لیے ایک چھٹا ہوا مل ہے، جس کی حقیقی تعریف کی جائے گہم ہے، کیونکہ بھی حقیقتیں کہ
لبذا جس شخص کا دل چاہے بخوبی آزمائش کر کے تجربہ کر سکتا ہے، کوئی ڈار و تایاب اجزاء تکسیں ہے کہ آپ کو نہ
سمیں ہے پناہ رو خانی قوت موجود ہے۔

۳۶۸ جب کے لیے ایک چھٹا ہوا مل ہے، جس کی حقیقی تعریف کی جائے گہم ہے، کیونکہ بھی حقیقتیں کہ
چشم راست کو نجح ایک عدو، دم بضر راست خود چند قطرہ، مندرجہ بالا دوں اجزاء کو آپس میں خوب
اچھی طرح بکھان کر لیں اور چند راتی کسی کھانے پینے کی چیز میں ملا کر کھلاؤیں تو مطلوب آپ کی محبت میا بیا۔

۳۷۰ اگر کسی محورت کا شہر ہے اغلاق اور بد مذاق اس محورت کو پہنچنے کے لئے اس کا شہر ہے۔ انشا اللہ اس کی بد اغلاقی اور بد مذاقی پہنچ کر کے یا کھانے کی کسی چیز پر دم کر کے اپنے خونہ کو پہنچانے۔ انشا اللہ اس کی بد اغلاقی اور بد مذاقی پہنچ کر کے یا اس کا لائق محورت اپنے گئے میں ڈالے تو اس کا شہر اس سے محبت کرنے لگے اور اس کے معاملوں میں سے اس کا معاملہ کرے۔ لائق یہ ہے۔

۷۸۴

۱۷	۲۱	۲۳	۱۶
۲۳	۱۱	۱۹	۲۲
۱۲	۲۶	۱۹	۱۵
۲۰	۱۳	۱۳	۲۵

برائے حب ذوق

۱۷۱ اگر کوئی محورت روایتی کے ۲۰ ہزاروں پر یا اعمالی لکھ کر کھائے اور اس میں کو ۳ روزہ تجھ کرے اور بیت شہر کی محبت کی رکھتے انشا اللہ اس کا شہر اس پر بہان پہنچانے لگے۔

۱۷۲ ۱۷۳ اپنے شہر کے نام کے اعدادوں میں یا "بُلْبُل" کے بعد اور ۱۲۹ ملا کر مطرب کی لذت کے بعد جو محورت اسی اعدادوں میں یا "بُلْبُل" پر میں کی اس کا شہر اس سے محبت کرنے لگے گا۔

۱۷۴ بہت بے مرداوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیوی کے ہاتھ میں کوئی بیوی بیس اپتے۔ ایسے مرداوں کے لیے یہ میں ہے کہ محورت ایک بڑا مرد ہے یا کرم "پُرخ" کر کر پانی پر دم کر کے ہر صورت کو شہر کو پہنچانے۔ انشا اللہ سات مرداوں میں ہاتھ بکار بہر ہوگی اور شہر رہی کو قم برائے غریب اپنے لے گا۔

۱۷۵ اگر مہاں زیوی میں ہاتھی رہتی ہو تو ایک بڑا مرد ہے یا "بُلْبُل" "پُرخ" کر کر پانی پر دم کر کے ہاؤں کو ہاتھ اٹھا کر اٹھا کر دو رہو گی۔

۱۷۶ ۱۷۷ اگر کسی اور دروازے پر ہاؤں سے ہد مان اور بیڑا اور ہاؤں اس کو پہنچانے کو ہو تو اس کو صورت "بُلْبُل" کی لائچی چاکر سے۔ اگر کوئی ایک ہاؤں کے بعد اس کا شہر اس سے محبت کرنے لگتا گا۔ اور اس کی لگانیاں خوش گماں ہوں گی۔

۳۶۶ جو شخص یہ پوچھتا ہو کہ اس فی بیعہ میں اس سے بے مثال محبت کرنے تو اس کو پہنچانے کے لیے کیا رہا ہے اور گیارہ یہ دن میں پورا کرنے کے بعد کسی مخفی جنپ پر دم کر کے کھائے ایک اللہ زیر دست فائدہ ہو گا۔ اسی میں کو اگر محورت کرنے گی تو اس کو فائدہ ہو گا اس طرح کے میں اگر شادی سے گمراہ دن پہلے شروع کر کے شادی کی رات پر شتم کروئے جائیں تو شروع دن سے محبت قائم ہو جائے۔ مفہوم صیاق بیعہ اگر یہ لائق اپنے انگوں میں ڈالیں یا اپنے انگوں میں رکھیں تو بہتر ہے۔

۲۰	۲۲۲۲۲	۲۰	۲۲۲۲۲
۲۰	۲۲۲۲۲	۲۰	۲۲۲۲۲
۲۰	۲۲۲۲۲	۲۰	۲۲۲۲۲
۲۰	۲۲۲۲۲	۲۰	۲۲۲۲۲


۳۶۷ اگر کوئی شخص یہ پوچھتا ہو کہ دین، احوال، نظر و ایسے میں وہ تجھول ہو جائے اور ۱۵ اپنے گھر میں ہوا پہنچ سے پہنچنے کے مسلسل ہے۔

۳۶۸ اگر کسی شخص کی زیوی بہت زیاد نہ ہوں اور ۱۰ نوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پر چھڑتے ہوں اور لا میں ختم کی جائے تو مرد ووپ بے نے کہ اس اسکو گیارہ ۱۰ نوں تجھے کیا رہا ہے اسکے بعد ۱۰ نوں تجھ پر ہے۔ ۱۰ نوں ہے تو اسی عکس میں ہاتھ اپنے ہوں تو مرد ووپ بے نے کہ اس اسکو گیارہ ۱۰ نوں ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے ہاتھ پر بچاؤ ہے۔

۳۶۹ اگر شہر زیوی سے بڑا رہے تو اس کی زیوی کو پہنچتے کہ اپنے شہر رہو، اس کی داد دے کے بعد ہاتھ کر

سکیں یا "بُلْبُل" کے بعد اس کے بعد سب قائد، لشکر، مرثی، چار، اس کی چال اگر رکنیں اس کی لچل و اپنے لگائیں ہوئے پہنچے میں یک کر کے ڈال لے۔ انشا اللہ شہر زیوی کو مرفوں اگرے کا اریزہ یا کی شہر زیوی پڑا اور اسی کی دلکشیت دفع ہوگی۔

۳۷۷ تسمیہ کا عمل: تماز عشاہ کے بعد اول و آخر ۱۱ مرتبہ درود شریف ۸۶۷ مرتبتہ
بم اندھر میں ارجیم میخی چین پانی پر پڑ کر مطلوب کو خلا میں بیٹھا اس کے معاوہ ذیل کے قصہ کو لامار
نام کے بعد لکھ کر رات کو پانی میں بھجو دیں جس کسی طریقے سے مطلوب کو پایا دیں ایک قصہ کو کتاب کا مدرسہ
کر اپنے پاس بھی رکھیں انش اللہ مطلوب کی محبت بہت زیاد ہے۔
اس قصہ کو لکھ کر گئے میں ذاں۔



مطلوب کا نام بہدوالدہ
اپنا نام بہدوالدہ
پانے کے لئے اس قصہ کو لکھیں۔

۷۸۶

۱۵۳۲۳۷	۱۵۳۲۵۹	۱۵۳۲۷۱	۱۵۳۲۱۹
۱۵۳۲۴۷	۱۵۳۲۲۳	۱۵۳۲۲۳	۱۵۳۲۲۳
۱۵۳۲۲۷	۱۵۳۲۷۹	۱۵۳۲۵۱	۱۵۳۲۳۹
۱۵۳۲۵۵	۱۵۳۲۳۵	۱۵۳۲۳۱	۱۵۳۲۷۵

۳۷۸ یاؤذوہ کا عمل: اسم الہی "یاؤذوہ" تماز عشاہ کے بعد ۱۰۰ مرتبہ اول و آخر ۱۱ مرتبہ درود
شریف کے ساتھ میخی چین پانی پر پڑ کر مطلوب کو خلا میں بیٹھا کیں روزانہ سیع سو رے صرف ایک مرتبہ
تسمیہ اور اسم پڑھ کر کسی بھی چیز پر دم کر کے مطلوب کو دیں اس کے معاوہ ذیل کے قصہ کو بھی مطلوب کو پا
سکتے ہیں ایک قصہ لکھ کر کتاب کا مدرسہ کا بھی ایک اپنے گلے میں پہنچنے۔

۳۷۹ اگر کوئی محنت تین سو مرتبہ یا دو دو ڈنہ کر کسی مدرسہ پر دم کر کے رکھ لے اور جب بھی شوہر کے
سامنے جائے اس مدرسہ کا پہنچنے کیزہ دیں لے تو انش اللہ شوہر کی رفتہ و محبت میں اضافہ ہو گا
مندرجہ ذیل قصہ جو یا اظہیت یا واقعی یا دو دو ڈنہ کے مشترک کا اعداد کا ہے۔ یہ قصہ اگر محنت ۱۰۰ مرتبہ
کا عمل سے لکھا کر ایک اپنے گلے میں ذاں لے اور ایک اپنے گھر میں لٹکا دے تو انش اللہ اس کا شوہر اس سے
سے زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ قصہ یہ ہے۔

۷۸۶

۳۸	۵۱	۵۵	۳۱
۵۳	۳۲	۳۷	۵۲
۳۳	۵۷	۳۹	۳۶
۵۰	۳۵	۳۳	۵۶

"یاؤذوہ" کے اعداد ۲۰ ہوتے ہیں۔ طالب و مطلوب کے اعداد میں ان کی ماوں کے اعداد میں
گرنے کے بعد ان میں ۲۰ کا اضافہ کر لیں اور حسب قاعدہ مطلوب کا منصر کے اعتبار سے قصہ ہا کر طالب
ہرے کپڑے میں پیک کر کے اپنے دائیں بازو پر ہاندھ لے اور مندرجہ ذیل قصہ مطلوب کو ۶ بجہ توں لے
پائے۔ اگر شب تیس پائے تو بہتر ہے ورنہ کسی بھی چیز میں گھوول کر پائے۔ انش اللہ مطلوب کے دل میں
طالب کی محبت کرنیں لینے لگے گی۔ جو قصہ پایا جائے گا وہ یہ ہے۔

۷۸۶

۸	۲	۱۰
۹	۷	۳
۳	۱۱	۶

اس قصہ کو گاب وزعنفران سے لکھنا چاہئے۔

| بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ |
|--|--|--|--|
| ۹۸ | ۱۱۰ | ۱۲۲ | ۷۰ |
| ۱۱۸ | ۷۳ | ۹۳ | ۱۱۳ |
| ۷۸ | ۱۳۰ | ۱۰۲ | ۹۰ |
| ۱۰۶ | ۸۶ | ۸۲ | ۱۲۶ |

(مطلوب کا نام بعده اللہ) علی حب علی قاب (اپنا نام بعده اللہ)
پانے کے لئے اس لفظ کو تکھیں۔

۷۸۶

| بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ |
|--|--|--|--|
| ۹۸ | ۱۱۰ | ۱۲۲ | ۷۰ |
| ۱۱۸ | ۷۳ | ۹۳ | ۱۱۳ |
| ۷۸ | ۱۳۰ | ۱۰۲ | ۹۰ |
| ۱۰۶ | ۸۶ | ۸۲ | ۱۲۶ |

۳۷۹ سورہ فاتحہ کامل نماز عشاء کے بعد ۳۱ مرتب الحد شریف اول اور ۳۱ مرتب دوسری شریف کے ساتھ بیٹھی جیز یا پانی پر پڑھ کر مطلوب کو کھلائیں یا پانی میں اس کے علاوہ ذیل کے لفظ کو لکھ کر تھات کو پالنی میں بھٹو دیں اور صحیح مطلوب کو کسی طریقے سے پاؤں ایس انش اللہ مطلوب آپ کے لئے بے عین رہے گا ایک لفظ لکھ کر عطر گاب لگا کر گلے میں چین لیں اثر آپ خود بکھیں گے۔ اس لفظ کو لکھ کر گلے میں ڈالیں۔

| بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ |
|--|--|--|--|
| ۲۳۱۲ | ۲۳۷۷ | ۲۳۸۹ | ۲۳۳۶ |
| ۲۳۸۵ | ۲۳۳۰ | ۲۳۶۰ | ۲۲۸۱ |
| ۲۳۳۳ | ۲۳۹۷ | ۲۳۶۹ | ۲۳۵۶ |
| ۲۳۷۳ | ۲۳۵۲ | ۲۳۳۸ | ۲۳۹۳ |

(مطلوب کا نام بعده اللہ) علی حب علی قاب (اپنا نام بعده اللہ)

۷۸۱

۲۳۸	۲۶۱	۲۷۳	۲۳۰
۲۴۹	۲۲۳	۲۲۳	۲۶۵
۲۳۸	۲۸۱	۲۵۳	۲۳۰
۲۵۷	۲۳۶	۲۳۲	۲۷۷

۳۸۱ سورہ کوثر کامل تمام کام سے قارئ ہونے کے بعد پا دھو ۳۱ مرتب سورہ کوثر اول و آخر

پانے کے لئے اس لفظ کو تکھیں۔

۷۸۲

۲۳۱۲	۲۳۷۷	۲۳۸۹	۲۳۳۶
۲۳۸۵	۲۳۳۰	۲۳۶۰	۲۲۸۱
۲۳۳۳	۲۳۹۷	۲۳۶۹	۲۳۵۶
۲۳۷۳	۲۳۵۲	۲۳۳۸	۲۳۹۳